

BEFORE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,
PESHAWAR.

SERVICE APPEAL NO. 676/2014

Date of institution ... 13.05.2014

Date of judgment ... 06.11.2017

Rizwan Ullah Khan,
Ex-Constable No. 2345,
Elite Force, District Bannu

... (Appellant)

VERSUS

1. The Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
 2. The Commandant/Inspector General of Police, Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
 3. The Deputy Commandant, Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
- ... (Respondents)

SERVICE APPEAL UNDER SECTION-4 OF THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL ACT, 1974 AGAINST THE ORDER DATED 28.02.2014 WHEREBY THE APPELLANT HAS BEEN DISMISSED FROM SERVICE AND AGAINST THE FINAL REJECTION ORDER DATED 30.04.2014 WHEREBY THE DEPARTMENTAL APPEAL OF THE APPELLANT HAS BEEN REJECTED FOR NO GOOD GROUNDS.

Mr. M. Asif Yousafzai, Advocate.
Mr. Usman Ghani, District Attorney

.. For appellant.
.. For respondents.

Mr. MUHAMMAD AMIN KHAN KUNDI
MR. GUL ZEB KHAN

.. MEMBER (JUDICIAL)
.. MEMBER (EXECUTIVE)

JUDGMENT

MUHAMMAD AMIN KHAN KUNDI, MEMBER: - Our this

judgment shall dispose of aforementioned service appeal as well as Service Appeal No. 677/2014 titled "Fawad Khan-Versus-The Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar and others, Service Appeal No. 678/2014 titled Umar Jan Khan-Versus- The Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar and others, Service Appeal No. 679/2014 titled " Naseeb Ullah Khan-Versus- The

Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar and others and Service Appeal No. 680/2014 titled "Imtiaz Ali Khan-Versus- The Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar and others as the aforesaid service appeals have been filed against the order dated 28.02.2014 whereby the competent authority (Deputy Commandant) have imposed major penalty upon the appellants and dismissed them from service on the allegations that they alongwith others were deputed for Naka bandi duty with SI Imam Hussain Shaheed, the then SHO PS Haved District Bannu, proclaimed offender namely Amin Shah started firing upon the then SHO in the area of Skiekh Fared Baba resultantly he sustained injuries and died, whereas the accused decamped from the scene after occurrence without any hindrance of the appellants and other as they became a silent spectator. Thus they have been ceased to become good police officials as well as guilty of misconduct.

2. Learned counsel for the appellants argued that the impugned orders as well as the order passed by the departmental authority are against the law, rules and norms of justice. It was further contended that neither proper inquiry was conducted nor proper opportunity of personal hearing and defence were provided to the appellants, even show-cause notice was also not issued to the appellants before passing the impugned order therefore, the orders passed by the competent authority as well as the departmental authority are illegal and void ab-initio. It was further contended that the occurrence has not taken place in the mode and manner alleged by the respondents. It was further contended that neither the statements of the witnesses were recorded during inquiry in the presence of the appellants nor they were given opportunity of cross examination. It was further contended that Muhammad Shoaib and Nasir Zaman were also dismissed from service on the same allegations but their departmental proceeding were conducted separately and in that departmental proceeding the present appellants were also charge sheeted for the same allegations alongwith Muhammad Shoaib and Nasir Zaman. It was

M. Anwar
6.11.2017

further contended that since Muhammad Shoaib and Nasir Zaman were also departmentally proceeded for the same allegations therefore, the respondents were duly bound to initiate one departmental proceeding against the present appellants alongwith Muhammad Shoaib and Nasir Zaman but the respondents have separately initiated departmental proceeding against the two other officials which has rendered the inquiry proceeding illegal and liable to be set-aside.

3. On the other hand, Mr. Usman Ghani learned District Attorney opposed the contention of learned counsel for the appellants and contended that the appellants were charged sheeted on the allegations that they alongwith two others namely Muhammad Shoaib and Nasir Zaman were on duty with SI Imam Hussain Shaheed, the then SHO PS Haved district Bannu, proclaimed offender namely Amin Shah started firing upon the then SHO in the area of Skiekh Fareed Baba resultantly he sustained injuries and died, whereas the accused decamped from the scene after occurrence of the offence without any hindrance of the appellants as they became a silent spectator. Thus they have been ceased to become good police officials as well as guilty of misconduct. It was further contended that proper charge sheet was framed, statement of allegations was served upon the appellants and proper inquiry was initiated wherein statement of the appellants alongwith other officials were recorded and after recording evidence the inquiry officer recommended them for major penalty. It was further contended that appellants were also provided opportunity of personal hearing and defence but they have failed to satisfy the high-ups therefore, the competent authority has rightly dismissed them from service.

4. We have heard the arguments on both side and gone through the record.

5. Perusal of the record reveals that the appellants were charge sheet on the allegations that on 13.01.2013 they were deputed for Naka bandi duty with SI Imam Hussain Shaheed, the then SHO PS Haved district Bannu and proclaimed offender namely Amin Shah started firing upon the then SHO in the area of Skiekh


M. Ghani
6.11.2017

Fareed Baba resultantly he sustained injuries and died, whereas the accused decamped from the scene after occurrence of the offence without any hindrance of the appellant as they became a silent spectator. Thus they have been ceased to become good police officials as well as guilty of misconduct. The record further reveals that the departmental proceedings were initiated against the appellants alongwith two other officials namely Muhammad Shoaib and Nasir Zaman but the departmental proceedings against Muhammad Shoaib and Nasir Zaman was initiated separately by the other inquiry officer. The record further reveals that during inquiry, statements of some other officials have been recorded but there is nothing on record to show that the appellants were provided opportunity of cross examination upon the said witnesses. Furthermore, ~~that~~ after completion of inquiry proceeding the competent authority was duly bound to provide copy of inquiry proceeding to the appellants with show cause notice but there is nothing on the record to show that before imposing major punishment the copy of inquiry proceeding were handed over to the appellants. Even a show-cause notice was not issued to the appellants before imposing the major punishment which have rendered all the inquiry proceeding illegal and liable to be set-aside. Therefore, we are constrained to accept the present appeals, set-aside the impugned order and reinstate the appellants in service. However, the respondent-department is at liberty to conduct a de-novo inquiry against the appellants within a period of three months from the receipt of this judgment. In case the de-novo inquiry is conducted the intervening period will be subject to the outcome of de-novo inquiry. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.

ANNOUNCED

06.11.2017


(GUL ZEB KHAN)
MEMBER


(MUHAMMAD AMIN KHAN KUNDI)
MEMBER

06.11.2017

Appellant with counsel present. Mr. Usman Ghani, District Attorney alongwith Mr. Sheraz, Head Constable for the respondents also present. Arguments heard and record perused.

Vide our detailed judgment of today consisting of four pages placed on file, we are constrained to accept the present appeals, set-aside the impugned order and reinstate the appellants in service. However, the respondent-department is at liberty to conduct a de-novo inquiry against the appellants within a period of three months from the receipt of this judgment. In case the de-novo inquiry is conducted the intervening period will be subject to the outcome of de-novo inquiry. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.

ANNOUNCED

06.11.2017


(GUL ZEB KHAN)
MEMBER



(MUHAMMAD AMIN KHAN KUNDI)
MEMBER

17.03.2017

Appellant in person and Addl: AG alongwith Mr. Muhammad Shiraz, H.C and Mr. Asghar Ali, H.C for respondents present. Appellant requested for adjournment. To come up for arguments on 08.06.2017.



(ASHFAQUE TAJ)
MEMBER



(MUHAMMAD AAMIR NAZIR)
MEMBER

08.06.2017

Clerk of the counsel for appellant and Mr. Sheraz Khan, HC alongwith Mr. Muhammad Adeel Butt, Additional AG for the respondents present. Clerk of the counsel for appellant requested for adjournment. Adjourned. To come up for arguments on 03.10.2017 before D.B.



(Gul Zeb Khan)
Member



(Muhammad Amin Khan Kundi)
Member

03.10.2017

Appellant in person and Asst: AG alongwith Mr. Muhammad Farooq, Inspector (Legal) for respondents present. Appellant seeks adjournment as his counsel is not in attendance. Adjourned. To come up for arguments on 06.11.2017 before D.B.



(AHMAD HASSAN)
MEMBER



(MUHAMMAD HAMID MUGHAL)
MEMBER

تعارف و گیشین رپورٹ آزاں آمین شاہ عرف شاہ صاحب ولد محمد نور

شاہ سید کنہہ شیخ فرید بابا پروید حال جانی ذیل سمیت ذیل ضلع بنوں

آمین شاہ	تاریخ پیدائش:
شاہ صاحب	دائری زبان:
شیم بی بی	تاریخ پیدائش:
نمبر نو رشاہ (زادہ حیات ہے)	مادری زبان:
نوت ہو چکی ہے۔	تاریخ پیدائش:
شاہ بی	تاریخ پیدائش:
تقریباً 1972	مادری زبان:
پشتو	تاریخ پیدائش:
40/45 سال	مادری زبان:
اسلام۔	تاریخ پیدائش:
دیوبندی، سنی	مادری زبان:
Nil	تاریخ پیدائش:
پشتو	مادری زبان جو بول سکتا ہو:
شیخ فرید بابا پروید	تاریخ پیدائش:
سید (شاہ جی)	تاریخ پیدائش:
شادی شدہ۔ بیوی کا نام شیم بی بی	ازدواجی حیثیت:
Nil	شادی کا کارڈ:
Nil	پرانا شادی کا کارڈ نمبر:
Nil	پاسپورٹ نمبر:
03329226561, 03068021472 زیر استعمال ہے۔	مدراسی نمبرات:

پانچویں جماعت	تاریخ پیدائش:
مدرسہ دارالعلوم حکیم خان پروید، مدرسہ امداد العلوم درے غلے، معراج العلوم بنوں سٹی، نظامیہ میر علی عیدک۔	دینی تعلیم:
Nil	گاہی:
دس لاکھ روپے	سرکی قیمت:
افغانستان	بیرون ملک سفر:
ہویداڈا پر جنرل اسٹور۔ رگاؤں میں بھی دکان تھا۔	زریعہ معاش:
بلک پاکستان سو پیپر پچا شاہ ضلع بنوں کے گاؤں شیخ فرید بابا پروید	مستقل پتہ:
صرف پشتو بولتا ہے۔	زبان جو لکھ پڑھ سکتا ہو:
Nil	بینک اکاؤنٹ:

گازوں میں دو کنال گھر تقریباً مشترک 8 کنال اراضی

نئی داد:-

ظاہری شکل، صورت: جسمانی صحت مضبوط، گندی رنگ، قد "5f11"، بال ملائیم، بالوں کا رنگ سیاہ، چہرہ گول، پیشانی متوازن، آنکھیں کالے، ناک لمبی، سر گول اور نزل، کان متوازن، داڑھی لمبی، مونچھیں متوازن، ہونٹ متوازن، معذوری NIL۔ تھوڑی متوازن، چال درمیانہ، اور دائیں آنکھ کے نیچے تل کا نشان۔

دائیں آنکھ کے نیچے تل کا نشان۔

ظاہری علامت:

میں علاقائی امن کمیٹی کا سربراہ ہیں۔

تکیہ کلام:

کمانڈر جمیل قوم افغانی حقانی میٹ ورک سے NWA میں ٹریننگ حاصل کی۔

جہادی تربیت / ٹریننگ:

جمیل کمانڈر، انعام اللہ اسناد

استاد کا نام:-

صرف کلاشکوف و پستول۔

اسلحہ کی تربیت:-

35/40 دن

آیام جہاد:-

خوست، گردیز وغیرہ۔

مقام جہاد:-

مجرم اشتہاری P/O ہے۔ جو ضلع بنوں اور ضلع تلی مروت پولیس کو مطلوب تھا۔

معلومات برائے موجودہ حالت:

معلومات برائے بیٹے، بیٹیاں:-

(1) حامد عمر 16 سال (گازوں میں چنگ چن چلا ہے)

(2) محمد سجاد عمر 10 سال گازوں میں سکول پڑھتا ہے۔

(3) محمد عمر عمر 7 سال سکول و دینی تعلیم پڑھتا ہے۔

(4) آمنہ بی بی عمر 8 سال گھر خود

(5) طفلکہ فہدہ عمر 6 سال

(6) طفلکہ کلثوم عمر 5 سال

برادران:-

(1) فرید اللہ ولد محمد نور شاہ (کھیتی باڑی کرتا تھا آجکل PO ہے)۔

ہمشیرہ گان:

(1) مسما آفتابہ بی بی زوجہ اسلم ولد عزیز رحمن سکنہ تاجی کھڈیگان

(2) پروین بی بی زوجہ رومال شاہ سکنہ شیخ فرید بابا ہوید

(3) لیلی بی بی زوجہ حضرت علی شاہ سکنہ دیبہ ام

(4) رابعیہ بی بی زوجہ دلا باز سکنہ حکیم خان ہوید

(5) بلقیس بی بی زوجہ عرفان سکنہ کالج نزد سبزی منڈی بنوں

(6) دلشاد بی بی زوجہ مراد علی سکنہ سرہ درگہ ہوید

(7) شہبازی بی بی زوجہ وحید اللہ سکنہ درے غلے

(1) گل رحیم شاہ ولد اجمل شاہ سکنہ شیخ فرید بابا ہوید۔

چچا گان:-

ماموں گان:

- (1) نور دیہات ولد ایوب خان سکند لہذا یواہ حال میاں والی پنجاب۔
- دوست، اور دیگر گروپ کے بارے معلومات :-
- (1) کمانڈر مولوی شیر عالم جانی خیل (ڈرون حملے میں ہلاک شد)
- (2) کمانڈر سیف الدین جانی خیل (ہلاک شد)
- (3) کمانڈر اختر محمد جانی خیل
- (4) مولوی اسحاق جانی خیل (حقانی گروپ)
- (5) زرگل عرفی آنکل ولد سین گل عرف پارسین گریڈ شاہ جہان۔
- (6) کمانڈر الیاس عرف بلال ولد حضرت علی سکند مند یو۔
- (7) کمانڈر طارق ولد میر گل سکند نور
- (8) کمانڈر شیر محمد عرف سینی ولد شیر ازا سکند اخوند خیل نواز آباد میریان۔
- (9) کمانڈر افسر علی عرف پشتون ولد محمد علی سکند مزانگہ میریان وغیرہ۔

NIL

طمانت کے متعلق معلومات:

NIL

معلومات بیرون ملک شہریت

سوانح عمری :-

امین شاہ عرف شاہ صاحب ولد محمد نور شاہ سکند شیخ فرید بابا ہوید کو پیدا ہو کر زیر سایہ والدین پرورش پا کر جب ہوش سنبھالا تو غربت کی وجہ سے تعلیم سے پانچویں تک حاصل کیں۔ آج سے تقریباً 23 سال قبل مسابہ شمیم بی بی دختر عزیز رحمن سکند تاجی کلہ کے ساتھ شادی کی۔ جس کے بطن سے تین بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ چونکہ آج سے دس سال پہلے شمالی، جنوبی وزیرستان و ضلع بنوں میں طالبان کا خوب دور تھا اور ہر کوئی طالبان کے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ تو میں بھی طالبان کمانڈر شیر عالم جانی خیل وغیرہ کے ساتھ گروپ میں شامل ہوا۔ میرانشاہ جہادی مرکز میں 103 ماہ تک ٹریننگ کی۔ بعد ٹریننگ کے تقریباً 2008 سے وقتاً فوقتاً افغانستان کے صوبہ خوست و گردیز وغیرہ میں کمانڈر شیر عالم وغیرہ کی قیادت میں حملے کئے۔ تقریباً ہمارے ساتھ 200/250 کے لگ بھگ طالبان تھے۔ تقریباً 2010 میں میرا ساتھی عابد سکند ہوید شہید ہوا۔ جبکہ عبد اللہ مسیح اللہ سکنائے جانی خیل، عثمان ہوید ہم واپس براستہ میرانشاہ سے جانی خیل آئیں۔ کافی عرصہ جانی خیل سوئی غرضیور، میر علی میرانشاہ، شوال میں گزارا۔ 2014ء میں جب ضرب غضب شروع ہوا۔ تو میں سوئی غرضیور اُس کے بعد جانی خیل ملک شہرین قوم مالی خیل سکند کو تکہ شاہد خان داخلی والی نور میں رہائش پزیر تھا۔ اور بعد میں مہتمن خیل جانی خیل میں رہائش پزیر ہوا۔

وقوعہ جات :-

- (1) سب سے پہلے 2008ء میں ہمراہ طالبان گروپ عالی شیر، خالد سکند ہوید، ملک رحمن عرف اسلم، اسلم ولد نذیر اور غلام فرید سکند درے ڈریز کے ہوید آڈاہ میں موجود تھا۔ رات کا وقت تھا کہ SHO ہوید نواب خان مردوت (شہید) کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا۔ جس میں ڈرائیور عمران شہید ہوا۔ جبکہ ہماری طرف عالی شیر سکند ہوید جان بحق ہوا۔ بعد وقوعہ کے ہم واپس مرکز جانی خیل چلے گئے۔
- (2) 2008ء میں معاذ اختر محمد الیاس عرف بلال، طارق، شیر محمد اور افسر علی عرف پشتون، کمانڈر سیف الدین، کمانڈر ت صدر خیانت ولد ذکیل، کمانڈر شیر عالم جانی خیل، کے ساتھ بمقام زندگی اکبر خان چوک پر موجود تھے۔ محبذنی خدیجہ اتھار کینڈین نزد وہاں سے گزر رہی تھی۔ تو میں نے

جہ دیگر گروپ کے 13/14 طالبان کے ہمراہ اغواء کر کے کمانڈر حافظ گل بہادر NWA کو میرانشاہ پہنچایا۔ چونکہ کمانڈر حافظ گل بہادر نے حکومت پاکستان سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ صحافی خدیجہ ہر قریب 55/60 سال زہرا خراست سپریم کمانڈر حافظ گل بہادر جان بحق ہوئی۔

(۳) 2013ء میں ہمراہ دیگر گروپ کے بوقت عصر وید گھر خود سکنہ دیہہ ام میں موجود تھا۔ کہ اس دوران امام حسن SHO ہو پد نے ہم پر چھاپہ مارا۔ اور جو ہی امام حسن SHO میرے گھر داخل ہوا۔ فوراً مجھ پر بذر ایج کا شکوف فائر کیا۔ جبکہ میں نے بھی اپنے کلاشکوف سے فائر کیا۔ جبکہ دوسرے ساتھیوں نے فائر بھی کیا۔ اور ہینڈ گرنیڈ بھی پھینکا۔ میرے فائر سے امام حسن SHO لگ کر زخمی ہو گیا۔ جبکہ امام حسن SHO کی فائرنگ سے میں دائیں کی کاٹی پر زخمی ہوا۔ بعد وقوعہ کے میں FR جانی خیل سوئی غر چلا گیا۔

(۴) کمانڈر شیر عالم نے مجھے اور حیدر بنگلی جانی خیل، فتح اللہ ولد سکنہ مہتن خیل جانی خیل کو ہمراہ دیگر طالبان ساتھی، ازبک طالبان کے تشکیل دی کہ تم چوکی شیخ لندک PS ہوید پر حملہ کرو۔ یہ جو یز میں نے کمانڈر شیر عالم کو دی تھی، کیونکہ یہ چوکی میرے گھر کے نزدیک تھی اور میری نقل، حرکت سے ہاجر رہتے تھے۔ اور اس جھڑپ میں ہمارا بہت نقصان ہوا۔ اس میں ہمارے دو ساتھی جان بحق ہوئیں۔ یہ وقوعہ 2014ء میں ہوا تھا۔

(۵) مورخہ 03-02-015 ماہین ویلا بہ تمام کچہ روڈ بند ما مو خیل مشران ماویز خان ولد در یوب خان سکنہ عالی خیل جانی خیل، دیگر مشران سواری گاڑی Vigo جو آری قلعہ سے بعد اختتام جرگہ ارہے تھے۔ بہ تمام ہالا پر میں مع فتح اللہ سکنہ مہتن خیل جانی خیل، رضن ولی جانی خیل، نصیب الرحمن، حافظ یونس، ضیاء اللہ، یسین اور حیدر علی سکنہ بنگلی جانی خیل نے کمانڈر اختر عمر کے کہنے پر IED بلاسٹ کی۔

(۶) بہ تمام زندگی اکبر خان چوک میں مورخہ 18-02-2016ء کو ہمراہ فاروق عرف خاروہ ولد حبیب اللہ سکنہ کوئٹہ میانوالی داخل سرہ درگہ برہہ دیگر ازبک طالبان کے شمس الرحمن عرف شمر وقہ ولد عبدالرحمن سکنہ کوئٹہ میانوالی سرہ درگہ کو ہم نے IED بلاسٹ کی تھی۔ جس میں وہ جان بحق ہوا اور دیگر زخمی ہوئیں۔

ملزم آمین شاہ سے برآمد شدہ آشیاء

(۱) ایک عدد کلاشکوف بمب ایونیشن

(۲) دو عدد ہینڈ گرنیڈ

(۳) ایک عدد Q مارکہ موبائل سیٹ (۱) IMEI نمبر 353857069805469

(۲) IMEI نمبر 353857069805477

موبائل سیم نمبرات :-

0332-9226561(۱)

0306-8021472(۲)


مقام بنوں

گفتہ واقعہ کے لئے ملائکہ

تاریخ 28

302
324-353-3/4 ESA
ATA-34

خارجہ دفتر 9 جولائی 13/13



Exp No 5
-1-
S. M. A. C. B.
29/7/13

چوک مشرقی

آبادی دہلی

حکومت پنجاب - دفتر خزانہ اور دستہ دورہ دیہہ شیخ فیاض علی کے مکان ملکہ امین شاہ کے پاس واقع ہے۔
 1۔ چوک مشرقی کے مکان ملکہ امین شاہ، چوک مشرقی کے مکان ملکہ امین شاہ کے پاس واقع ہے۔
 2۔ چوک مشرقی کے مکان ملکہ امین شاہ کے پاس واقع ہے۔
 3۔ چوک مشرقی کے مکان ملکہ امین شاہ کے پاس واقع ہے۔
 4۔ چوک مشرقی کے مکان ملکہ امین شاہ کے پاس واقع ہے۔
 5۔ چوک مشرقی کے مکان ملکہ امین شاہ کے پاس واقع ہے۔
 6۔ چوک مشرقی کے مکان ملکہ امین شاہ کے پاس واقع ہے۔
 7۔ چوک مشرقی کے مکان ملکہ امین شاہ کے پاس واقع ہے۔
 8۔ چوک مشرقی کے مکان ملکہ امین شاہ کے پاس واقع ہے۔
 9۔ چوک مشرقی کے مکان ملکہ امین شاہ کے پاس واقع ہے۔
 10۔ چوک مشرقی کے مکان ملکہ امین شاہ کے پاس واقع ہے۔
 11۔ چوک مشرقی کے مکان ملکہ امین شاہ کے پاس واقع ہے۔
 12۔ چوک مشرقی کے مکان ملکہ امین شاہ کے پاس واقع ہے۔
 13۔ چوک مشرقی کے مکان ملکہ امین شاہ کے پاس واقع ہے۔
 14۔ چوک مشرقی کے مکان ملکہ امین شاہ کے پاس واقع ہے۔
 15۔ چوک مشرقی کے مکان ملکہ امین شاہ کے پاس واقع ہے۔

فصل نمبر ۹ - وقت و قوس کا شیل ۲۳۱ سے ۲۳۲ کے درمیان جا جو کئی تہائی - اور قوس کی فاصلہ
۲۴۱ سے ۲۴۲ - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم

فصل نمبر ۱۰ - وقت و قوس کا شیل ۲۳۲ سے ۲۳۳ کے درمیان جا جو کئی تہائی - اور قوس کی فاصلہ
۲۴۱ سے ۲۴۲ - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم

فصل نمبر ۱۱ - وقت و قوس کا شیل ۲۳۳ سے ۲۳۴ کے درمیان جا جو کئی تہائی - اور قوس کی فاصلہ
۲۴۱ سے ۲۴۲ - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم

فصل نمبر ۱۲ - وقت و قوس کا شیل ۲۳۴ سے ۲۳۵ کے درمیان جا جو کئی تہائی - اور قوس کی فاصلہ
۲۴۱ سے ۲۴۲ - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم

فصل نمبر ۱۳ - وقت و قوس کا شیل ۲۳۵ سے ۲۳۶ کے درمیان جا جو کئی تہائی - اور قوس کی فاصلہ
۲۴۱ سے ۲۴۲ - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم

فصل نمبر ۱۴ - وقت و قوس کا شیل ۲۳۶ سے ۲۳۷ کے درمیان جا جو کئی تہائی - اور قوس کی فاصلہ
۲۴۱ سے ۲۴۲ - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم

فصل نمبر ۱۵ - وقت و قوس کا شیل ۲۳۷ سے ۲۳۸ کے درمیان جا جو کئی تہائی - اور قوس کی فاصلہ
۲۴۱ سے ۲۴۲ - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم

فصل نمبر ۱۶ - وقت و قوس کا شیل ۲۳۸ سے ۲۳۹ کے درمیان جا جو کئی تہائی - اور قوس کی فاصلہ
۲۴۱ سے ۲۴۲ - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم

فصل نمبر ۱۷ - وقت و قوس کا شیل ۲۳۹ سے ۲۴۰ کے درمیان جا جو کئی تہائی - اور قوس کی فاصلہ
۲۴۱ سے ۲۴۲ - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم - تمام نمبر سے ۴ قدم

(29)

صلح مومن

دینو اسٹیت ہیرڈ ایٹو رنی

دینو اسٹیت ہیرڈ ایٹو رنی

302/324-353
34/3/4 EISA/7ATA
13/13

ملاحظہ

مذکورہ سٹیٹ ہیرڈ ایٹو رنی کے ذریعہ
مذکورہ سٹیٹ ہیرڈ ایٹو رنی کے ذریعہ
مذکورہ سٹیٹ ہیرڈ ایٹو رنی کے ذریعہ
مذکورہ سٹیٹ ہیرڈ ایٹو رنی کے ذریعہ
مذکورہ سٹیٹ ہیرڈ ایٹو رنی کے ذریعہ

مذکورہ سٹیٹ ہیرڈ ایٹو رنی کے ذریعہ
مذکورہ سٹیٹ ہیرڈ ایٹو رنی کے ذریعہ
مذکورہ سٹیٹ ہیرڈ ایٹو رنی کے ذریعہ
مذکورہ سٹیٹ ہیرڈ ایٹو رنی کے ذریعہ
مذکورہ سٹیٹ ہیرڈ ایٹو رنی کے ذریعہ




10/CO/HQ/Bos
21.1.2013

For forwarded

orders
21.1.2013
local police
has requested for
extension in 74
jurisdiction on 74
that 2 of 74 are unknown
his order to trace tourist
may be granted if you want
permissible & extension of 7 days
is needed by 21-1-13

for appropriate orders
please

Bennu
PPATC/Bos



21.1.2013

EX PA PA
B
13/11/13

رہورٹ امام حسن خان 8H5 مختار ہجوید گہر قریب 50/50
 آج مورخ 13/11/13 بوقت 19:15 بجات فی صحت ہیچام المیر فی
 لہم سول ہسپتال بنوں رپورٹ کرتا ہے۔ کہ اسروز میں معر لہری لوہیں
 سرکاری گاڑی میں عدم میں گشت پر تھا۔ جب ہیچام کچھ راستہ روندہ
 دیہہ شیخ فرید بابا لوہے۔ تقریباً 05-17 بجے کا وقت ہو گا۔ کہ وہاں
 پر پہلے سے موجود سچیان (داعین شاہ ولد چھوڑا لور سکتہ شیخ فرید معر
 دیگر دو اشخاص رسم، سکتے گولوم سلمہ یہ کلد شنگوف ہا، دستی ہم نے
 یوہیں یوہیں پارٹی ڈائسن سرکاری سے اترتے ہیں سرکاری ڈیوٹی میں
 فراغت کرتے ہوئے اپنے اپنے اسلحہ ہا سے ہم یوہیں پارٹی پر فائرنگ
 کیں۔ اور دستی ہم میں نہیں۔ جبکہ فائرنگ اور دستی ہم حصے سے میں
 لگ کر زخمی ہو کر گر گیا۔ دیگر یوہیں پارٹی اور ملزمان کے جانین کے حصہ
 تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ سکتے ملزمان پیم لنگنے میں کا صباب ہوئے
 میں اپنی جبر و صحت اور دیگر یوہیں پارٹی پر یہ نسبت قتل فائرنگ کرنے اور
 دستی ہم جینکے کا بر خلاف ہر قسم کسان ملزمان قتل گروہ بالذکر ہوا ہوں

الصارفہ کاروائی یوہیں حسب تقتر مسائل رپورٹ دو ح ہا ہا
 کر کے پھر سنائی، صحیحانی جاننے پر صحت رپورٹ کو درست نام کر کے زیر
 رپورٹ خود اپنا دستخط کیا۔ جبکہ میں لکھنے لگا ہوں، جبر و ح نام حسن
 خان کا لہتم ضرر مرتب کر کے لیض عدلح نہا لہ، رائے ڈائسن کی زیر حفاظت
 کابیل رو بار 787 مورخ ڈائسن صاحب کیا گیا۔ رضون رپورٹ سے صورت ہم
 کی پائی جانی ہے۔ لہذا رپورٹ لیض قائمی

ESA 324-353-4
TATA-34

فہم، کفین باجی اے عدم تھا ہجوید بدست کابیل چھوڑا رسم 13/11/13
 فہم علی شاہ 602
 کبھی DHA ہسپتال بنوں
 13/11/13



POST-MORTEM REPORT

Yearly No. 09/9216218

NAME اسم جن

FATHER'S NAME OR HUSBAND'S NAME اسم والد

Caste انسان

RESIDENCE گورجی

SEX ♂

AGE 40-55 year

DISTRICT پنجاب

Body brought by: Shahid

Body Identified by: سرکار (پولیس) گورجی

Whence brought: Village, Thana, District گورجی

DATE AND HOUR OF 16/1/13

Death: 1-10 AM 16/1/13

Examination of body 4 AM 16/1/13

Despatch of matter to Chemical Examination

Symptoms observed before death: Hospitalized

Information furnished by Police: F.A.S.

N.B. — The Medical Officer will observe the state of all the organs, and when he finds no disease or injury, he should write in the appropriate place the word "Healthy"

I. EXTERNAL APPEARANCE

Mark of ligature on neck and dissection, etc. NIL

Condition of subject stout emaciated, decomposed, etc., Clothing

A young man 40/45 year 2 eye well built (Wearing Changan (Clothing) F.A.S. R.M.

Wounds, bruises, position, size, nature.

Stated (dying) The deceased was brought from the surgical A ward CRH Peshawar. There were one surgical stab wound penetrating wound 2x1cm in l/r and two clean lacerations stitched in both side abdomen.

- ① A fine thin entry wound on left side part of abdomen 3cm from umbilicus and 8cm below costal margin.
- ② A thin slit wound on RT side below 7 Bullback 2x3cm in size.
- ③ An entry and exit wound with compound fracture of RT Humerus (Arm) 5x6cm in size 1cm below the shoulder.
- ④ An entry and exit wound with compound fracture of RT



Below the shoulder

Name Muhammad Hassan Khan

40

No.

Son of _____

Age 45/24

Sex Male

Caste _____

Occupation SHO

Residence _____

Name of Relative or Friend _____

Date of Examination 13/1/13

Date and hour of arrival 13/1/13 7:10 PM

No and date of Police docket Constable Rubaiz

No and date of Constable 787 Constable Rana

If admitted

Date of admission 13/1/13

Date of discharge _____

Date and hour of report sent to Police 13/1/13

Space for particulars as to further reference to the case date of giving evidence in Court of despatch of articles said to contain poison.

shifted to O.T

Handwritten Urdu notes:
 1. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 2. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 3. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 4. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 5. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 6. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 7. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 8. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 9. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 10. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 11. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 12. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 13. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 14. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 15. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 16. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 17. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 18. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 19. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 20. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 21. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 22. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 23. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 24. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 25. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 26. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 27. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 28. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 29. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 30. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 31. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 32. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 33. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 34. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 35. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 36. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 37. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 38. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 39. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 40. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 41. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 42. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 43. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 44. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 45. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 46. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 47. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 48. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 49. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 50. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 51. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 52. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 53. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 54. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 55. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 56. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 57. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 58. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 59. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 60. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 61. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 62. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 63. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 64. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 65. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 66. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 67. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 68. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 69. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 70. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 71. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 72. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 73. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 74. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 75. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 76. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 77. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 78. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 79. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 80. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 81. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 82. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 83. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 84. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 85. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 86. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 87. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 88. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 89. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 90. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 91. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 92. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 93. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 94. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 95. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 96. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 97. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 98. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 99. گولی کا ٹکڑا مل گیا
 100. گولی کا ٹکڑا مل گیا

Two Identification marks:

Particulars of injuries of symptoms, in case of poisoning.

- ① One 4" x 2" FA shattered wound on ventral aspect of Right forearm.
- ② One 3" x 2" FA shattered wound on anterolateral aspect of Right arm, Compound fracture of humerus.
- ③ One 4" x 3" FA gape wound on Right side of abdomen.
- ④ One 1/2" x 1/8" FA entry wound in left side of abdomen.
- ⑤ One 1" x 7/8" FA exit wound on lateral aspect of Right buttock. Injured is oriented.

KUO

Exp. No. 2
Signature
29/1/13

1. Nature of injuries _____

(Simple, grievous or dangerous) _____

Probable duration of injury 01-03 hours

The kind of weapon used or poison suspected in the case of poisoning

} FA

EX-Psw/1
 22/11/13
 13/11/13

تفصیلات ضروری

39

322
 324-353-5 ESA-7ATA

13/01/13


تقدیرات نمبر

6	5	4	3		2	1
			جنس	عمر		
رائے جناب ڈاکٹر صاحب	رپورٹ پولیس آفیسر جناب ڈاکٹر سید سجاد حسین ہونو لیکار کراچی میڈیٹل کالج پیر زخات سندھ خانہ 4 بڈلہ سید اسلم آتشین سے ملکا اور زخمی ہونا بیان ہوا ہے بعض علاج حفاظت کا نہیں روایا خود سے کیا جاتا ہے۔ خود سے مشکوڑا ہوا ہے 29/13	تفصیل زخات 1 ایک ٹراژم خون الورد میں ہالوتا آہنی ہے۔ 2 ایک ٹراژم خون الورد میں ساتھ جانب۔ 3 ایک ٹراژم خون الورد میں چھوٹا 4 چھوٹا چھوٹا زخات۔ 5 دو عدد زخات ہیں۔	عورت	مرد	45/50 سال	نام لکھو 1455/50

EX-minor

13/11/13

EX-Psw/1



جناب ڈاکٹر صاحب کو تحصیل ہونے

لیکھنا کار

محمد رفیق صاحب کی طبیعت نام حسن خان ۸۸۵ ہوید ہو

آج حرم ۱/۱۳ کو ہفتہ ۱۵-۱۹ کے زخمی حالت میں لایا گیا

بیماریاں ہیں۔ اسے راجا دیا گیا کہ کوئی کام نہیں ہے یا نہ

اسے راجا دیا گیا کہ کوئی کام نہیں ہے یا نہ

~~Fugate~~

IHC/Casualty injured is oriented

13-1-013

and able to give verbal statements

[Signature]


13/1/13

Exp 13

[Signature]

Sgt. J. B.

29/13



مکمل ہو

فرد قائم تلامذہ

مکمل ہو

مقدمہ نمبر 9/13/13
324-353-3/ESA
7ATA/34


دوبارہ دواہان ذیل مقدمہ نمبر 9/13/13 میں
شہداء فریادگار قائم تلامذہ بہ اہمیت تیار کیا گیا ہے۔
دیگر آدھت دعوت کی عمل میں آئی ہے۔ مگر نہ میں اپنے پاس
کسی بھی آلٹھ لڈال قتل کے شکیوک یا دیگر صورت میں
فرد قائم تلامذہ کے بارے میں کوئی دیکھ سکتا ہوں

CP/40/13

3/13

1- کپتان انصاف ولد محمد زکریا کٹھن صاحب قاضی، ضلع فیصل آباد -
کٹھن 11201-511054-9

2- تاحلی صاحب کٹھن صاحب، فیصل آباد




قلم ۱۱ :- وہ قلم ظاہر کیا ہے۔ جہاں پر چھوڑ دینے والے اپنے شاہ و شرم کو خیر دیکھ کر
 لہر لہا کرنا پڑی ۱۲۔ قلم ۱۲ :- وہ قلم ظاہر کیا ہے جس میں ایک طرف سے ہوا کا ہوا سے
 (۱۳) لہر لہا کرنا پڑی ۱۳۔ قلم ۱۳ :- وہ قلم ظاہر کیا ہے جس میں ایک طرف سے ہوا کا ہوا سے
 ہر طرف سے ہوا کا ہوا سے ہوا کا ہوا سے ہوا کا ہوا سے ہوا کا ہوا سے ہوا کا ہوا سے

قلم ۱۴ :- وہ قلم ظاہر کیا ہے۔ جہاں پر چھوڑ دینے والے اپنے شاہ و شرم کو خیر دیکھ کر
 لہر لہا کرنا پڑی ۱۴۔ قلم ۱۴ :- وہ قلم ظاہر کیا ہے جس میں ایک طرف سے ہوا کا ہوا سے
 (۱۵) لہر لہا کرنا پڑی ۱۵۔ قلم ۱۵ :- وہ قلم ظاہر کیا ہے جس میں ایک طرف سے ہوا کا ہوا سے
 ہر طرف سے ہوا کا ہوا سے ہوا کا ہوا سے ہوا کا ہوا سے ہوا کا ہوا سے ہوا کا ہوا سے

قلم ۱۶ :- وہ قلم ظاہر کیا ہے۔ جہاں پر چھوڑ دینے والے اپنے شاہ و شرم کو خیر دیکھ کر
 لہر لہا کرنا پڑی ۱۶۔ قلم ۱۶ :- وہ قلم ظاہر کیا ہے جس میں ایک طرف سے ہوا کا ہوا سے
 اور دوسری طرف سے ہوا کا ہوا سے ہوا کا ہوا سے ہوا کا ہوا سے ہوا کا ہوا سے ہوا کا ہوا سے

لہر لہا کرنا پڑی ۱۷۔ قلم ۱۷ :- وہ قلم ظاہر کیا ہے جس میں ایک طرف سے ہوا کا ہوا سے
 اور دوسری طرف سے ہوا کا ہوا سے ہوا کا ہوا سے ہوا کا ہوا سے ہوا کا ہوا سے ہوا کا ہوا سے


10/CO/H9/Ban
 13.1.13



28.07.2016

Counsel for the appellant and Mr. Yaqoob Khan, Naib Court alongwith Assistant AG for respondents present. Learned counsel for the appellant requested for adjournment. Request accepted. To come up for arguments on 29.8.16 before D.B alongwith connected appeals.


Member


Member

29.08.2016

Appellant with counsel and Mr. Javed Iqbal, DSP (legal) alongwith Additional AG for respondents present. Due to non-availability of D.B comprising of Mr. Pir Bakhsh Shah, Learned Member (Judicial) and Mr. Abdul Latif, Learned Member (Executive) today the instant appeal be placed before said Bench.

In view of the order dated 15.06.201 office is directed to place the instant service appeal alongwith other identical appeals before the said bench for final hearing for 01.12.2016.


Member


Chairman

01.12.2016

Counsel for the appellant and Mr. Javed Iqbal, Inspector alongwith Mr. Ziaullah, GP for respondents present. The D.B is incomplete due to relinquishment of charge by Judicial Member. To come up for arguments on 17.3.17.



Member

15.6.2016

Counsel for the appellant and Mr. Javed Iqbal, Inspector (Legal) alongwith Assistant AG for respondents present. Learned counsel for the appellant submitted before the court that the present case has been heard and fixed for order by the other bench vide order sheet dated 26.2.2015 however, later on other connected cases were clubbed and the case was fixed for re arguments. Learned counsel for the appellant requested that the case be sent to bench which has already heard the case and fixed it for order.

Perusal of the case file reveals that vide order sheet dated 26.2.2015 the case was heard and fixed for order however, due to consolidation of connected cases, the case was fixed for re-arguments, therefore, it would be appropriate that the case be fixed before bench which has already heard the case and fixed it for order. Case file to sent learned Chairman for making appropriate order.


Member


Member

29.6.2016.

File received and order sheet dated 15.06.2016 perused.

This appeal is entrusted to D.B comprising of Mr. Pir Bakhsh Shah, learned Member (Judicial) and Mr. Abdul Latif, learned Member (Executive) for final hearing and disposal for 28-7-2016


Chairman

11.02.2016

Counsel for the appellant and Mr. Muhammad Jan, Government Pleader with Javed Iqbal, DSP for the respondents present. Since the Court time is over, therefore, arguments could not be heard. To come up for arguments on


28.4.16


MEMBER


MEMBER

28.04.2016

Agent of counsel for the appellant and Mr. Javed Iqbal, Inspector (legal) alongwith Mr. Muhammad Jan, GP for respondents present. Due to strike of the Bar learned counsel for the appellant is not available today before the Court, therefore, case is adjourned for arguments to 15.6.16


Member



Member

~~28.04.16~~

~~...for respondents present learned counsel for appellant submitted before the court that the present case has been finalized for order by the court and the order is being issued...
...in other connected cases...
...the court has decided to adjourn the case for arguments on 15.6.16~~

~~...the case was in a state of confusion...
...arguments, therefore, it would be appropriate that the case be fixed for arguments, therefore, it would be appropriate that the case be fixed for arguments, case adjourned for arguments on 15.6.16~~


Member


Member

4.08.2015

Junior to counsel for the appellant and Addl. AG with Javed Iqbal, SI (Legal) for the respondents present. Counsel for the appellant was stated to be busy in hon'ble Darul Qaza. Therefore, case to come up for requisite record and further arguments on 08-10-2015.



MEMBER



MEMBER

08.10.2015

Counsel for the appellant and Mr. Javed Iqbal, Inspector (legal) alongwith Addl: A.G for respondents present. The Bench is incomplete therefore, case is adjourned to 2-12-15 for arguments.



MEMBER

02.12.2015

Counsel for the appellant and Mr. Javed Iqbal, Inspector (Legal) alongwith Asst: AG for respondents present. During course of arguments copy of enquiry report was not found on record. Representative of the respondent-department is directed to produce the same on next date. To come up for arguments on

11-2-2016



Member



Member

4.08.2015

Junior to counsel for the appellant and Addl. AG with Mir Faraz Inspector (Legal) for the respondents present. Counsel for the appellant was stated to be busy in hon'ble Darul Qaza. Therefore, case to come up for requisite record and further arguments on _____

MEMBER

MEMBER

4.08.2015

Clerk of Counsel for the appellant and Mr. Muhammad Javed Supdt. with Muhammad Jan, GP for the respondents present. Clerk of learned counsel for appellant stated that cases of similar nature have already been fixed on 13.11.2015 and requested for adjournment to the same date. Therefore, case to come up for arguments alongwith connected appeals on _____

MEMBER

MEMBER

6 09.02.2015

Counsel for the appellant and Mr. Javed Iqbal, Inspector (legal) on behalf of respondents alongwith Addl: AG present. Written reply submitted. The case is assigned to D.B for rejoinder and final hearing for 26.02.2015.


Chairman

26.2.2015

Counsel for the appellant and Addl. AG with Inspector Javed Iqbal for the respondents present. Arguments heard. To come up for order on 09.4.2015.


MEMBER


MEMBER

09.04.2015

Appellant with counsel Addl: A.G for respondents present. Arguments partly heard.

It transpired that seven officials of police department, the appellants were removed from service on the charge of cowardice in the background of incident martyrdom of SHO Imam Hassan. Since the relevant record has been requisitioned in the connected cases of Muhammad Shoaib and Nasir Zaman of the regular police officials, therefore, these cases also be clubbed with the same. To come up for further arguments alongwith connected appeals on 4.8.2015.


MEMBER


MEMBER

Appeal No. 676/2014

3. 14.07.2014

Counsel for the appellant present. Preliminary arguments heard and case file perused. Counsel for the appellant contended that the appellant has not been treated in accordance with law/rules. Against the original order dated 28.02.2014, he filed departmental appeal on 14.03.2014, which has been rejected on 30.04.2014, hence the present appeal on 13.05.2014. He further contended that the impugned order dated 30.04.2014 has been issued in violation of Rule-5 of the Civil Servant (Appeal) Rules 1986. Points raised at the Bar need consideration. The appeal is admitted to regular hearing subject to all legal objections. The appellant is directed to deposit the security amount and process fee within 10 days. Thereafter, Notices be issued to the respondents. To come up for written reply/comments 17.10.2014.

Appellant Deposited
Security & Process Fee
Rs. 1800/- Bank
Receipt is Attached with File.

NW

Member

4. 14.07.2014

This case be put before the Final Bench P for further proceedings.

Chairman

5. 17.10.2014

Counsel for the appellant and Mr. Javed Iqbal, Inspector (legal) on behalf of respondents with Mr. Muhammad Adeel Butt, AAG present. Written reply has not been received, and request for further time made on behalf of the respondents. To come up for written reply/comments alongwith connected appeals on 9.2.2015.

Chairman

Form- A
FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No. 676/2014

S.No.	Date of order Proceedings	Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate
1	2	3
1	13/05/2014	<p>The appeal of Mr. Rizwan Ullah Khan presented today by Mr. M. Asif Yousafzai Advocate may be entered in the Institution register and put up to the Worthy Chairman for preliminary hearing.</p> <p><i>[Signature]</i> REGISTRAR</p>
2	19-5-2014	<p>This case is entrusted to Primary Bench for preliminary hearing to be put up there on <u>14-7-2014</u>.</p> <p><i>[Signature]</i> CHAIRMAN</p>

Security
Stamp
2014

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE
TRIBUNAL, PESHAWAR.**

Appeal No. 676 /2014


Mr. Riazwan Ullah Khan V/S Elite Force, KPK, Peshawar.


INDEX

S.No.	Documents	Annexure	Page No.
1.	Memo of Appeal	-----	01-04
2.	Copy of Charge Report	- A -	05
3.	Copy of Statement of Allegations	- B -	06
4.	Reply to Charge Sheet	- C -	07-08
5.	Copy of Inquiry Report	- D -	09-13
6.	Copy of Penalty Order	- E -	14
7.	Copy of Appeal	- F -	15-16
8.	Copy of Rejection Order	-G-	17
9.	Vakalat Nama	-----	18

APPELLANT
Rizwan Ullah Khan

THROUGH:


(M. ASIF YOUSAFZAI)
ADVOCATE, PESHAWAR.

AND

(TAIMUR ALI KHAN)
Advocate, Peshawar.

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,
PESHAWAR.**

Appeal No. 676 /2014

Mr. Rizwan Ullah Khan,
Ex-Constable No.2345,
Elite Force, District Bannu.

~~13/5/14~~
698
13/5/14

APPELLANT

VERSUS

1. The Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
2. The Commandant/Inspector General of Police, Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
3. The Deputy Commandant, Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

RESPONDENTS

.....

APPEAL UNDER SECTION-4 OF THE KHYBER PAKHTUNKHWA, SERVICE TRIBUNAL ACT, 1974 AGAINST THE ORDER DATED ~~28.02.2014~~, WHEREBY THE APPELLANT HAS BEEN DISMISSED FROM SERVICE AND AGAINST THE FINAL REJECTION ORDER DATED 30.04.2014 WHEREBY THE DEPARTMENTAL APPEAL OF THE APPELLANT HAS BEEN REJECTED FOR NO GOOD GROUNDS.

.....

PRAYER:

.....

THAT ON ACCEPTANCE OF THIS APPEAL, THE ORDER DATED ~~28.02.2014~~, AND 30.04.2014 MAY BE SET ASIDE AND THE APPELLANT MAY BE REINSTATED WITH ALL BACK BENEFITS. ANY OTHER REMEDY, WHICH THIS AUGUST TRIBUNAL DEEMS FIT AND APPROPRIATE THAT MAY ALSO BE AWARDED IN FAVOUR OF APPELLANT.

~~13/5/14~~
13/5/14

RESPECTFULLY SHEWETH:

1. That the appellant joined the police force in the year 2007 and complete various courses successfully and also has good service record. The appellant as per Court judgments and definition was a civil servant of the province of Khyber Pakhtunkhwa.
2. That the appellant was charge sheeted under Police Rules 1975 for not properly performing his duty while on gasht with the then SHO Imam Hussain Shaheed on 13.1.2013. The P.I. Bannu was also nominated as Inquiry Officer in the statement of allegations. Copies of the charge sheet and Statement of Allegations are attached as Annexure-A and B.
3. That the appellant filed reply to the charge sheet and denied all the allegations with proofs. Cop of the Reply to Charge sheet is attaché as Annexure-C.
4. That then the inquiry was conducted and statement of all the accused constables were recorded but the statement of other officials were not recorded in the presence of appellant nor they were put to cross examination. However, the inquiry officer held the appellant guilty and recommended for major punishment. Copy of the Inquiry Report is attached as Annexure-D.
5. That then after the inquiry on ~~28.5~~ 2013, the appellant was dismissed from service. The appellant filed departmental appeal against the penalty order but the same was also rejected by the appellate authority on 30.04.2014. Copies of Order, Appeal and Rejection Order are attached as Annexure-E , F and G.
6. That now the appellant comes to this Honourable Tribunal on the following grounds amongst the others.

GROUND:

- A) That the order dated 21.5.2013 and 30.4.2014 are against the law, rules, norms of justice and material on record. Therefore, not tenable.

- B) That no final show cause notice was issued to the appellant which is the violation of law and as such the whole action of the respondents became liable to be set aside.
- C) That no chance of personal hearing was provided to the appellant and as such the appellant was condemned unheard which is the violation of Audit Altram Partem.
- D) That none of the other official's statement was recorded in the presence of appellant nor were they put to cross examination, which is also the violation of law and rules.
- E) That the appellant never shown any cowardice and fought for long time nor left the premises. That was also reported by the other officials in their diaries. That aspect was not considered by the inquiry officer.
- F) That then appellant was a civil servant of the province and he was to be dealt according to E&D Rules 2011, but in the instant case the appellant was dealt under Police Rules, 1975 which is gross illegality.
- G) That the appellant was punished for no fault on his part and the given penalty is also very harsh.
- H) That the appellant has not been treated according to law and rules.
- I) That the rejection is not a speaking order and has been passed by incompetent authority despite the fact that the appeal was made to the Commandant Elite Force, K.P.K. but the same was rejected on 30.04.2014 by the Deputy Commandant, Peshawar.
- J) That though the rejection order dated 30.04.2014 is also violation of the 24 Act of the General Clauses as well as Supreme Court's Judgment reported 1981 SCMR Page-2330.

K) That the appellant seeks permission to advance others grounds and proofs at the time of hearing.

It is, therefore, most humbly prayed that the appeal of the appellant maybe accepted as prayed for.

APPELLANT *Rizwan*
Rizwan Ullah Khan

THROUGH:

Am - Jai
(M. ASIF YOUSAFZAI)
ADVOCATE, PESHAWAR.

AND

Taimur Ali Khan
(TAIMUR ALI KHAN)
Advocate, Peshawar.

CHARGE SHEET

A (5)

I, Dilawar Khan Bangash, Deputy Commandant Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar as competent authority hereby charge you Constables Rizwan Ullah No. 2345, Company No. 22 Elite Force as follows;

That on 13.01.2013, You were deputed for Naka Bandi duty with SI Imam Hassan Shaheed the then SHO-PS Haved, 01 accused namely Amin Shah started firing upon him in the premises of Sheikh Fareed Baba, Resultantly, He was sustained injured and after then he got embraced martyrdom. The accused decamped from the scene after the commission of offence without any hindrance while they have, become a silent spectator. Thus you have ceased to become good Police officials as well as well as guilty of misconduct.

2. By reason of the above, you appear to be guilty of misconduct under the Police Rules (amended vide NWFP gazette, 27th January 1976) and have rendered yourself liable to all or any of the penalties specified in the said rules.

3. You are, therefore, directed to submit your defense within seven days of the receipt of this Charge Sheet to the Enquiry Officer.

4. Your written defense, if any, should reach the Enquiry Officer within the specified period, failing which, it shall be presumed that you have no defense to put in and in that case ex-parte action shall be taken against you.

5. You are directed to intimate whether you desire to be heard in person.

6. A statement of allegation is enclosed.



(DILAWAR KHAN BANGASH)
Deputy Commandant
Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.

SUMMARY OF ALLEGATIONS

I, Dilawar Khan Bangash, Deputy Commandant Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar as competent authority, am of the opinion that Constables Rizwan Ullah No. 2345, Company No. 22 has rendered himself liable to be proceeded against as he has committed the following misconduct within the meaning of Police Rules (amended vide NWFP gazette, 27th January 1976).

SUMMARY OF ALLEGATIONS

That on 13.01.2013, they were deputed for Naka bandi duty with SI Imam Hassan Shaheed the then SHO PS Haved, 01 accused namely Amin Shah started firing upon him in the premises of Sheikh Fareed Baba, Resultantly, He was sustained injured and after then he got embraced martyrdom. The accused decamped from the scene after the commission of offence without any hindrance while they have, become a silent spectator. Thus they have ceased to become good Police officials as well as well as guilty of misconduct.

2. For the purpose of scrutinizing the conduct of the said accused with reference to the above allegations Inspector Shabir Ahmad of Elite Force Bannu is appointed as Enquiry Officer.

3. The Enquiry Officer shall provide reasonable opportunity of hearing to the accused, record statements etc and findings within (25 days) after the receipt of this order.

4. The accused shall join the proceedings on the date, time and place fixed by the Enquiry Officer.

(DILAWAR KHAN BANGASH)

Deputy Commandant,

Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

No. 10434-38/EF, dated Peshawar the 12/08/2013.

Copies to;

1. Office Superintendent, Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. RI, Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
3. Inspector Shabir Khan of Elite Force Bannu.
4. SRC, Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
5. FC Rizwan Ullah No. 2345, of Elite Force through reader SP/Elite Bannu.

(DILAWAR KHAN BANGASH)

Deputy Commandant,

Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar

3 اب جارج میڈیکل ایسوسی ایشن فارم جسے ڈی ملیٹریٹ مہا EF کو لکھا گیا ہے
بنام من ایٹل ریمان الہ 2345 ضلع بٹوں
EF -

7

الزام - حجہ الزام ملانہ ہے۔ نہ فرق $\frac{1}{13}$ میں شیخ فرید بابا زاری کے حدود $\frac{1}{13}$ ملانہ
تہا نہ خود ران من اسکا نہ ہندی پورٹ پر موجود تھا۔ کہ اوانسا زاری کی طرف سے
اسٹریٹ نامی شخص نے $\frac{1}{13}$ پر فائرنگ کی۔ $\frac{1}{13}$ زخمی ہو کر گدیوں میں لٹا ہوا
میں ہندی اظہار کرتے ہوئے کہ تم کی وضع واردات سے بچ گئے دیا۔

صحت

ملانہ سندہ الزام کی تردید کرتے ہوئے جو ریا عرفیوں نے نہ فرق $\frac{1}{13}$ ہم باغ لکھنؤ EF
ہاں $\frac{1}{13}$ تہا نہ شیخ فرید بابا زاری نامہ $\frac{1}{13}$ ملانہ سے اسکا نہ سرکاری فائرنگ
میں خود روزہ شیخ فرید بابا زاری پر ہونے لگی۔ اسٹریٹ مہا نے اسکا نہ مقصد ہمیں
ظاہر نہ کیا۔ دانتہ میں اسٹریٹ مہا سے کوئی ساٹھ ٹھکانے کو دارما کیلئے
3 ڈاکوں کو وہ لیسواں کوئی ساٹھ مہا کے طرف روانہ ہوا۔ جب حدود شیخ فرید بابا لکھنؤ
کو سامنے آئے تو ان کا کوئی ڈاک بھی $\frac{1}{13}$ اور $\frac{1}{13}$ ڈاک فائرنگ سے الٹا نہ گیا۔ ہم
کئی آٹھ۔ $\frac{1}{13}$ مہا نے حجہ۔ خود خان اور بھوانی کی ہا۔ $\frac{1}{13}$ ڈاک فائرنگ سے الٹا
دہ مہا ہے۔ اور $\frac{1}{13}$ کے بیچ میں بیچ ڈاک ریمان نامہ خان۔ امبیاز خان اور لکھنؤ
گڈن کے اہل۔ خود کوئی ڈاک اس سے اس سے داخل ہوئے۔ حکمایت ہلے سے کھلا
مہا۔ ہم نے ضال نہ $\frac{1}{13}$ کے کسی دوست یا واقف کی بجائے ہلے۔ کہ اوانسا
اس سے انڈر پرنسٹ فائرنگ ہوئی۔ ضد ملے پور ڈو زور دار دھماکے ہوئے۔ اور مہا سے
دھواں اور لہر و پھار اٹھنا شروع ہوا۔ ہم فائرنگ سے بچنے کے لیے باہر لڑے۔ کئی
نہ ہا ہوا۔ خود کوئی ڈاک سے ڈاک فائرنگ سے بچنے کے لیے۔ اور مہا سے
مہا فائرنگ شروع کی۔ کہ آٹھ میں لکھنؤ امبیاز لکھنؤ اور بتایا۔ کہ $\frac{1}{13}$ مہا زخمی ہوئے
اسے خود لکھنؤ کہ تہا نہ شیخ فرید بابا سے لکھنؤ لکھنؤ لکھنؤ لکھنؤ لکھنؤ
 $\frac{1}{13}$ مہا۔ کو باہر نکالیں۔ امبیاز خان اور بھوانی دونوں مہا سے انڈر لکھنؤ۔ اور
اور خود کوئی ڈاک لکھنؤ لکھنؤ لکھنؤ لکھنؤ لکھنؤ لکھنؤ لکھنؤ لکھنؤ لکھنؤ لکھنؤ
 $\frac{1}{13}$ مہا۔ کو زخمی حالت میں باہر نکالا۔ اور ہسپتال روانہ کیا۔ اس دوران ہم انڈر لکھنؤ لکھنؤ

(P.T.O)

ATTESTED

تھا تھا۔ گوری دیکر لبر اعدادی گوری لپی لوگ آئی۔ مکان کا تندی سرخ کی۔ مگر گری
سختی ملزم نہ ملا۔ وقت و قیام میں تھکانے اندر نہیں لیا تھا۔ تاہم جمعہ صبح ہوا۔ کہ ملزم
سختی کون ہے۔ اور اس راستہ سے نکل رہا ہے۔ آئیٹ نہ سے کوئی سختی باہر نہیں لکلا
ہے۔ 2/3 دن لبر 1100 صبح۔ اصل لپی لپی افسران چھ پورے تھے اور باہمی صلح فکروں
سے 1100 کی گوری کی ترتیب دی۔ اور وقت مکان سے باہر دیکھ لیا۔

وقت کے دو سرے دن تھانہ سٹاف والوں میں نہ لپٹے جاہتہ چھوڑ گیا۔ کہ 1100 صبح
نے اچھا نہیں لیا۔ آئین شاہ نے آئیٹ مارا اسٹی فینک کی ہے۔ دوبارہ ماہراری و قبول
کی کیا ضرورت تھی۔ چاہئے تھا۔ کہ 1100 کو بھجوا۔ خود نہ جاتا۔ کوئی 3-4 میں لبر دیکھا
کہ 1100 کو لکھا اچھا آدی ہے۔ دو قابل اعتماد ہے 9۔ 1100 اس میں اعتماد نہ لیا
یہ باتیں سن کر ہم نے فینک اور راہواری آئیٹ لپی جان لی۔ اس سے پہلے ہم اس قسم کی
ذرا لپٹ آدی سے ناراض تھے۔ مکان والوں نے EF گوری کی دوسری منزل لبر رائس زیر لکھا
تاہم آئیٹ سرگرمیوں ماہمیں سلم نہ ہو۔ آئیٹ دن 1100 گوری کو فلی پیدا ہوا۔ 3 اس وقت
وقت لبر تھا۔

علاجی 10 یہ ساخنہ نہ آئیٹ تھا۔ جیسا کہ روٹی در اور FIR میں تحریر ہوا ہے۔ نہ ہی جیہا یہ زنی کی
ادرنہ ہی تاہم ہندی ہوئی تھی۔ بلکہ یہ ایک مذکورہ عزم کی تکمیل تھی۔ 3/1100 اور 1100 تھانہ
م ایک مشترکہ عمل تھا۔ پھر بان ضلعی افسران نے 1100 صبح لیا کہ سیدر کی دیکھے تھے مختلف
الفاظ کے استعمال سے آئیٹ سے متعلقہ پتہ دیا۔ اور اصل حقیقت لبر لبرہ ڈالا۔ درنہ حقیقت کچھ
اور گئی۔ اس وقت روٹی کو سے باہر کو آئیٹ۔ احتیاطی حفاظتی لبر لبرہ انیا سے پورے ہوئی تاثر نہ
کی ہے۔ اور آئیٹ کو 1100 صبح دیکھا۔ آئیٹ لبر لبرہ سختی باہر نہیں لکلا ہے۔ اس کے لبر
ہوں۔ مگر ضد جاری اور آئیٹ بنیاد ہے۔ دراصل مشرفانے کی استرعاذ کرتا ہوں۔ اور
زبان لبر لبرہ لپی زنا لبر لبرہ۔ والیہ لبر لبرہ صبح۔ مالیت لبر لبرہ

رضی اللہ عنہم

نیل رضوان الہی 2345 منہ ان
EF

ENQUIRY REPORT

D
9

During the encounter with militant Amin Shah, Imam Hassan Khan SHO PS Haved was injured and later on succumbed to the injuries. Case FIR No. 9, dated 13-01-2012 u/s 324-353-7ATA PS Haved has been registered in this regard. Police party present with him failed to encounter or to arrest the accused. Constable Rizwanullah No. 2345 Platoon No. 89 was also present with SHO on the spot. Constable Rizwanullah No. 2345 was charge sheeted with the allegations that "the accused decamped from the scene after the commission of the offence without any hindrance while they have become silent spectators. Thus they have ceased to become good police officials as well as guilty of misconduct". I was appointed as enquiry officer.

During the enquiry I recorded the statement of the following Police officers/ officials

1. Inspector Murad Ali Khan, Investigation officer.
2. Umer Khitab ASHO PS Haved.
- X 3. Constable Hayat Ullah No. 636 PS Haved.
- X 4. Constable Hamid No. 1808 PS Haved (Pickup driver).
- ✓ 5. Constable Umer Jan No. 2342 Elite Force Bannu
- ✓ 6. Constable Naseebullah No. 4072 Elite Force Bannu
- ✓ 7. Constable Fawad No. 379 Elite Force Bannu
- ✓ 8. Constable Imtiaz Ali No. 1625 Elite Force Bannu
9. Asmat Ullah Reader to DSP Elite Force Bannu.
- ✓ 10. Constable Rizwanullah No. 2345 Elite Force (accused official).

for

Police

BRIEF OF THE STATEMENTS

1. **Murad Ali Khan** Inspector stated that he has investigated the case FIR No. 13, dated 13-01-2013 u/s 324-353-7ATA PPC PS Haved. He has prepared site plan on the pointation of ASHO and police officials present with SHO on the spot. He has also recorded the statements of the police officials.

- He has recorded the statements of all police officials on the spot.
- ✓ 1 • The incident has occurred outside the house of Amin Shah as pointed by police officials.
- He has prepared site plan on the pointation of police officials present with Imam Hassan Khan SHO.
- ✓ • If the statements of the accused police officials are produced in the court during the trial it will damage the case.

ATTESTED

- During the investigation he did not find any proof that Imam Hassan Khan SHO had gone to the house of Amin Shah for receiving "MONTHLY".
- Imam Hassan Khan was morally sound.

2. **Umer Khatab** ASHO PS Haved stated that he got information through wireless in police station. He along with police party reached to the spot where DPO and other police nafri had been reached already. They took the injured SHO to hospital and combed the area for arresting the accused but in vain.

- They reached to the spot after 50 minutes of the incident.
- Imam Hassan, the injured SHO was taken to the hospital in APC.

3. **Constable Hayat Ullah** stated that he along with other police officials went out in police pickup with SHO. They arrested a man namely Hazrat Umer riding by Motor bike in the way. They went towards the house of Amin Shah. When they reached there, SHO directed him to remain with Hazrat Umer, the arrested man and he along with other police officials went towards the house of Amin Shah. After a short while they heard firing, later on they were informed that SHO has been injured.

- SHO was accompanied by all police officials except him.
- SHO had gone to the house of Amin Shah for his arrest and not for receiving "MONTHLY".
- SHO remained injured on the spot for long time that shows their inefficiency.
- Imam Hassan SHO was morally sound.

4. **Hamid Khan No. 1808** stated that he was pickup driver and went out with SHO along with police party. In the way they arrested one man riding by motorbike. When they reached to Sheikh Farid Baba, SHO directed Hayat Ullah to remain with the arrested man. When SHO along with police party went, after short while they heard firing. Constable came and told them that the SHO has been injured. He informed all concerned about the incident. Police nafri came for their assistance with APC. SHO was taken to the hospital in APC.

- I have no knowledge that the SHO was in link with the household of accused Amin Shah.

ATTESTED



5. **Constable Umer Jan No. 2342** stated that he along with other police officials went out along with SHO from Police Station. SHO went towards Sheikh Farid Baba and on the way he arrested one man riding on motorbike. Then they went to Sheikh Farid Baba where SHO entered to one house. After short while he heard firing and came to know that SHO has been injured. He remained present at the spot other police party came for help and SHO was taken to hospital for treatment. He was unaware about raid. Later on he got information that SHO had gone to the house of Amin Shah for receiving "MONTHLY".

- They were unaware about the raid.
- SHO had gone to the house of Amin Shah for receiving "MONTHLY".

6. **Constable Naseebullah No. 4072** stated that he along with other police officials went out along with SHO from Police Station. SHO went towards Sheikh Farid Baba and on the way he arrested one man riding on motorbike. Then they went to Sheikh Farid Baba where SHO entered to one house. He also entered with him. SHO went towards one room, as he reached suddenly someone fired on SHO and SHO was injured. He remained present at the spot and other police party came for their help and SHO was taken to hospital for treatment. He was unaware about raid. Later on he got information that SHO had gone to the house of Amin Shah for receiving "MONTHLY".

- They were unaware about the raid.
- SHO had gone to the house of Amin Shah for receiving "MONTHLY".

7. **Constable Fawad No. 379** stated that he along with other police officials went out along with SHO from Police Station. SHO went towards Sheikh Farid Baba and on the way he arrested one man riding on motorbike. Then they went to Sheikh Farid Baba where SHO entered to one house. After short while he heard firing and came to know that SHO has been injured. He remained present at the spot and other police party came for their help and SHO was taken to hospital for treatment. He was unaware about raid. Later on he got information that SHO had gone to the house of Amin Shah for receiving "MONTHLY".

- They were unaware about the raid.
- SHO had gone to the house of Amin Shah for receiving "MONTHLY".

ATTESTED

8. **Constable Imtiaz Ali No. 1625** stated that he along with other police officials went out along with SHO from Police Station. SHO went towards Sheikh Farid Baba and on the way he arrested one man riding on motorbike. Then they went to Sheikh Farid Baba where SHO entered to one house. After short while he heard firing and came to know that SHO has been injured. He remained present at the spot and other police party came for help and SHO was taken to hospital for treatment. He was unaware about raid. Later on he got information that SHO had gone to the house of Amin Shah for receiving "MONTHLY".

- They were unaware about the raid.
- SHO had gone to the house of Amin Shah for receiving "MONTHLY".

9. **Asmat Ullah** reader to DSP Elite Force Bannu stated that he informed both Shoaib No. 331 and Nasir Zaman No. 1467 time and again by their mobile numbers to come for their statement in the enquiries of Elite constables but they refused and said that they have been dismissed from their service and have no work with police.

10. **Constable Rizwanullah No. 2345** stated that he along with other police officials went out along with SHO from Police Station. SHO went towards Sheikh Farid Baba and on the way he arrested one man riding on motorbike. Then they went to Sheikh Farid Baba where SHO entered to one house. After short while he heard firing and came to know that SHO has been injured. He remained present at the spot and other police party came for their help and SHO was taken to hospital for treatment. He was unaware about raid. Later on he got information that SHO had gone to the house of Amin Shah for receiving "MONTHLY".

- They were unaware about the raid.
- SHO had gone to the house of Amin Shah for receiving "MONTHLY".

ATTESTED



CONCLUSION


I have gone through all the statements recorded in the process of enquiry and also police file of the case. This shows that as Constable Imtiaz Ali No. 1625, platoon No. 82 Elite Force Bannu reached to the spot, SHO was injured but he remained silent and unmoved. He neither encountered the accused nor showed any resistance even he failed to take injured SHO in pickup and bring him to hospital for treatment. Constable Imtiaz Ali No. 1625 has recorded his statement to the investigation officer according to Site plan and FIR that the incident occurred outside the house but in the enquiry statement he stated that incident occurred inside the house. His statement is helpful for the accused and harmful for the case. He also stated that the SHO had gone to the house of Amin Shah for receiving "MONTHLY".

His following actions recommend him for penalty.

1. His cowardice at the spot.
2. Blaming the martyred SHO for corruption.
3. His statement in the enquiry against FIR and the statement recorded in the case.

RECOMMENDATIONS

Constable Rizwanullah No. 2345, platoon No. 89 is recommended for major punishment i.e. **DISMISSAL FROM SERVICE.**


 Deputy Superintendent of Police
 Elite Force Bannu

Dismissed.

27/2/14.

ATTESTED

[Signature]

t
e
o
to
ry
he
the
r.

(SH)
Peshawa



Office of the Deputy Commandant
Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar

E 14

No. 2712-19/EF

Dated 28/02/2014.

ORDER

Constable Rizwan Ullah No. 2345, Platoon No. 89 of Elite Force Khyber Pakhtunkhwa was found guilty of gross misconduct on the following grounds.

He along with other constables of Elite Force on 13.01.2013, were deputed for Naka bandi duty with SI Imam Hassan Shaheed, the then SHO PS Haved district Bannu. 01 PO namely Amin Shah started firing upon him (SHO) in the area of Skiekh Fareed Baba. Resultantly, he sustained injured and after that he got embraced martyrdom. The accused constable decamped from the scene after occurrence of the offence without any hindrance as they became a silent spectator. Thus they have ceased to become good Police officials as well as guilty of misconduct. Proper departmental enquiry was conducted against him by the DPO/Bannu office and DPO/Bannu has dismissed him from service vide his office order No. 6356-64/SRC dated 21.05.2013.

Being a member of Elite Force Khyber Pakhtunkhwa a proper departmental enquiry was initiated against him and Mr. Shabir Ahmad Acting DSP Elite Force Bannu was appointed as enquiry officer. After the completion of enquiry process the Enquiry Officer found him guilty of the charges leveled against him and recommended him for major punishment. Consequently, A Final Show Cause Notice was also issued to him by the undersigned, but his reply was found unsatisfactory. He was also heard in person in orderly room on 27.07.2014, but he failed to satisfy the undersigned.

I, Sajid Khan Mohmand, Deputy Commandant, Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar as competent authority, agreed with the decision of DPO Bannu as well as the recommendation of Acting DSP/Elite Force Bannu and impose major penalty of dismissal from service upon him, with immediate effect.

ATTESTED

(SAJID KHAN MOHMAND)

Deputy Commandant

Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.

DY: COMMANDANT,
ELITE FORCE
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

Copy of the above is forwarded to the:-

1. Acting Deputy Superintendent of Police, Elite Force, Bannu.
2. RI, Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
3. Accountant, Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
4. Incharge Kot /OASI, Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
5. SRC/FMC, Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
6. FC Rizwan Ullah No. 2345 of Elite Force through reader DSP Elite Bannu.

محضور جناب والا شان کمانڈنٹ صاحب ایلیٹ فورس صوبہ خیبر پختونخواہ پشاور

اپیل: کا اہدم فرمانے حکم جناب ڈپٹی کمانڈنٹ صاحب ایلیٹ فورس اور بحال فرمانے ملازمت سائل جو حقیقت پر مبنی آپ بیتی کو مسترد

کر کے ایک فرضی جگ بیتی کو عملی جامہ پہنا کر بحوالہ آرڈر بک نمبر EF/19-2712 سائل کو ملازمت سے

28-02-2014

ڈمس کیا ہے۔

جناب عالی!

سائل آنجناب کے حضور عاجزانہ امونود بانہ اپیل پیش کرتا ہے کہ

(1) سائل مورخہ 15.07.2007 کو بھرتی ہو کر ریکروٹ کورس کے علاوہ ایلیٹ کورس مکمل کیا اور صوبائی سطح پر مختلف اضلاع میں ایمر جنسی ڈیوٹیاں دیں۔ سال 2013 میں ضلع بنوں کے تھانہ ہوید میں تعینات تھا۔

(2) مورخہ 13-01-2013 SHO تھانہ ہوید نے ہم 5 کانسٹیبلان E.F کے اپنے ساتھ مقصد بتائے بغیر سرکاری گاڑی میں روانہ کئے۔ تھانہ سے 3/4 کلومیٹر کے فاصلہ پر جا کر وہاں ایک بند مقام کے ساتھ رُک گئے۔ SHO نے ہمیں گاڑی کے پاس رہنے کا کہا اور خود ہمراہ DFC تھانہ ہوید اور ایک کانسٹیبل کے اُس مکان یا بیٹھک کے اندر نہایت خوشگوار مود میں داخل ہوا۔ لیکن چند ہی لمحے بعد اُس مکان کے اندر ایک بُرست فائر ہوئی۔ ہم گھبرا کر الٹ ہوئے کہ اس اثناء میں DFC اور اُس کانسٹیبل نے ہمیں آوازیں دیں کہ اندر آؤ تاکہ SHO صاحب کو نکال لیں۔ جونہی ہم مکان کے گیٹ پر پہنچے۔ تو اندر مکان میں یکے بعد دیگر دو گرنیڈ کے دھماکے ہوئے۔ جو مکان کے اندر گرد و غبار اور دھواں اُٹھا۔ ہمیں کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق مکان کے کھوٹے جات کی طرف فائرنگ شروع کیں۔ گرد و غبار کے ختم ہونے پر SHO کو زخمی حالت میں باہر نکالا۔ اتنے میں گمک نفری بھی پہنچ آئی اور SHO صاحب کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا۔ رات کے اندھیرے کی وجہ سے ملزمان بارے کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ مکان کے دیوار پھاند کر نکل چکے تھے۔

(3) زخمی SHO امام حسن نے ہسپتال میں FIR درج کرتے وقت بیان کیا کہ وہ معمول کے گشت پر تھا۔ جب بوقت 17:00 بجے کچھ راستہ شیخ فرید بابا پہنچا تو وہاں پر پہلے سے موجود ملزمان آمین شاہ وغیرہ نے اُن پر فائرنگ شروع کیں۔

(4) لیکن وقوع کے دوسرے دن تھانہ ہوید سٹاف والوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے SHO صاحب کے غلط کام بارے تنقید شروع کیں۔ جس کا ذکر ہم نے اپنے سابقہ بیانات میں کیا ہے۔

(5) ہمارے خلاف محکمانہ انکوائری شروع ہوئی۔ ضلعی افسران نے باہمی مشورہ سے ہمارے لئے ناکہ بندی کا لفظ چن کر الزام عائد کیا کہ بد دوران ناکہ بندی ہمراہ SHO صاحب ہم E.F جوانوں نے بزودی کا مظاہرہ کیا ہے اور خاموشی اختیار کر کے ملزمان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کیا ہے۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ گشت E.F کے سٹینڈنگ آرڈر میں نہیں۔ میں نے حقیقت پر مبنی جواب دیا

ATTESTED

ہے جو انکوائری فائل پر موجود ہے۔

(6) دوبارہ انکوائری کے لئے شبیر احمد خان DSP/E.F بنوں انکوائری افسر مقرر ہوا۔ لیکن وہ خود کرپشن کے سلسلہ میں زیر انکوائری تھا۔ اس نے انکوائری بنوں آفس کے میر فرازا P.I کو حوالہ کی۔ جس نے اپنے دفتر کے بند کمرے میں اپنے تجربہ کے مطابق انکوائری رپورٹ تیار کی۔

(7) مجھے فائل شو کاز نوٹس جناب ڈپٹی کمائنٹ صاحب نے ایشو کیا۔ جس کا میں نے تفصیلاً جواب پیش کیا۔

(بیان کی فوٹو کاپی لف ہمراہ قابل ملاحظہ ہے۔)

(8) لیکن جناب ڈپٹی کمائنٹ صاحب نے حقیقت کو مسترد کر کے فرضی اور من گھڑت الزام کو حقیقت تسلیم کرتے ہوئے سانس کو ملازمت سے ڈسمس کیا ہے۔

عالیجاہ!

میں نے بزدلی نہیں کی ہے۔ میں نے 82 کارٹوس فائر کئے ہیں لیکن مکان نے اندرونی نقشہ سے ہم لاعلم رہے۔ SHO

صاحب نے گشت بتایا ہے اور الزام ناکہ بندی میں بزدلی عائد ہے۔ نہ گشت تھا اور نہ ہی ناکہ بندی۔ سٹینڈنگ آرڈر کی خلاف ورزی

کی طرف کسی بھی آفسر نے توجہ نہیں دی ہے۔ سٹینڈنگ آرڈر نمبر 2 کے ضمن 14 میں گشت ممنوع اور ناکہ بندی بارے R.P.O یا D.P.O

صاحبان کا حکم ضروری ہے اور مقام ناکہ بندی کا تعین اور E.F کی نفی کی تعداد 10 نفر سے کم نہ ہوگی۔ ضلعی سطح پر E.F کی بدنامی کی کوشش کی گئی ہے۔ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔

لہذا استدعا کرتا ہوں کہ مسائل کی ملازمت بحال فرمائی جاوے۔ ماتحت پروری ہوگی۔

الارض


EX کا نشیب ضوان اللہ خان نمبر 2345 ضلع بنوں

موبائل نمبر 0346 2234048

مورخہ = 3
14

ATTESTED





142



Office of the Addl: Inspector General of Police
Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar



No. S237-41/EF


Dated 30 /04 / 2014.

- To :
1. Mr. Rizwan Ullah s/o Mir Zaban Khan
 2. Mr. Imtiaz Ali s/o Izzat Khan
 3. Mr. Naseeb Ullah s/o Hanif Ullah Khan
 4. Mr. Fawad Khan s/o Ghulam Daud Khan
 5. Mr. Umer Jan s/o Noor Ali Khan


Subject: **APPEAL FOR RE-INSTATEMENT IN SERVICE**

Memo:

Your appeals for re-instatement in service have not been accepted and filed by the competent authority.


(SAJID KHAN MOHMAND)
Deputy Commandant
Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.

ATTESTED



FINAL SHOW CAUSE NOTICE

I, Sajid Khan Mohmand, Deputy Commandant Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar as competent authority under Police Rules (amended vide NWFP gazette, 27th anuary 1976), do hereby serve you Constable Rizwan Ullah No. 2345, Platoon No. 89 of Elite Force as follows;

That on 13.01.2013, you were deputed for Naka Bandi duty with SI Imam Hassan Shaheed the then SHO PS Haved, 01 accused namely Amin Shah started firing upon him in the premises of Sheikh Fareed Baba, Resultantly, He was sustained injured and after then he got embraced martyrdom. The accused decamped from the scene after the commission of offence without any hindrance while they have, become a silent spectator. Thus you have ceased to become good Police officials as well as guilty of misconduct.

i. That consequent upon the completion of enquiry conducted against you by Mr. Shabir Ahmad acting DSP/Elite Force Bannu, you were given full opportunity of hearing but failed to satisfy the enquiry officer. Enquiry Officer recommended you for major punishment.

ii. On going through the finding and recommendation of the enquiry officer, the material available on record, I am satisfied that you have committed the omission/commission specified in Police Rules (amended vide NWFP gazette, 27th January 1976) and charges leveled against you have been established beyond any doubt.

2. As a result therefore, I, Sajid Khan Mohmand, Deputy Commandant Elite Force, Khyber Pakhtunkhwa Peshawar as competent authority have tentatively decided to impose major penalty upon you including removal from service, under Police Rules (amended vide NWFP gazette, 27th January 1976) of the said ordinance.

3. You are therefore, directed to show cause as to why the aforesaid penalty should not be imposed upon you.

4. If no reply to this show cause notice is received within seven days of its delivery, in the normal course of circumstances, it shall be presumed that you have no defense to put and in that case an ex-parte action shall be taken against you.

5. A copy of the finding of the Enquiry Officer is enclosed.

(SAJID KHAN MOHMAND)
Deputy Commandant

Elite Force Khyber Pakhtunkhwa Peshawar

R-12
No. 775 /EF, dated Peshawar the 20/01/2014.
Constable Rizwan Ullah No. 2345, of Elite through reader DSP/Elite Force Bannu.

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA,
SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**

Service Appeal No. 676/2014

Rizwan Ullah Khan

VS

Police Deptt:

.....

REJOINDER ON BEHALF OF APPELLANT

.....

RESPECTFULLY SHEWETH:

Preliminary Objections:

(a-f) All objections raised by the respondents are incorrect and baseless. Rather the respondents are estopped to raise any objection due to their own conduct.

FACTS:

- 1 Admitted correct by thee respondents, which mean that para 1 of the para of the appeal is correct.
- 2 It is correct that the charge sheet based on statement of allegation was served to the appellant, but he did not show cowardice on the occasion of the occurrence vide order dated 13.01.2012 while on gasht with the then SHO Iman Hussan Shahed and when the miscreants attempted on the lives of Police Party the appellant along with other Police party fought for the long time and never left the premises.
- 3 Incorrect. The appellant denied all allegations with proofs in his reply submitted in response to the charge sheet.
- 4 Incorrect. No proper inquiry was conducted as the statement of all accused constables were

recorded, but the statement of other officials were not recorded in the presence of the appellant, nor they were put to cross examination which means that the appellant condemned unheard, which is the violation of law and rules.

- 5 Admitted correct by the respondents that the appellant was dismissed from the eservice. However the rejection order on the departmental appeal is not speaking order which is against the judgment of Supreme Court of Pakistan reported in 1991-SCMR, page 2330.
- 6 No comments endorsed by respondents which means that they have admitted para-6 of appeal is correct.

GROUND:



- A) Incorrect. The orders dated 21.5.2013 and 30.4.2014 are unjust, illegal and were not passed in accordance with law and rules on the subject. Therefore liable to be set aside.
- B) Incorrect. While para B of the appeal is correct.
- C) Incorrect. No chance of personal hearing was provided to the appellant and as such the appellant was condemned unheard which is against the law and rules
- D) Incorrect. While para D of the appeal is correct.
- E) Incorrect. The appellant along with other police official fought for the long time and did not left the premise which was also reported by the other officials in their diaries.
- F) Incorrect. E&D Rules 2011 was promulgated in 2011 and after the promulgation of this Rules all civil servant of the Province are dealt by this rules. The appellant is also a civil servant of the Province and should be dealt by E&D Rules 2011 but the appellant was dealt under Police rules 1975, which is gross illegality.

- G) Incorrect. While para G of the appeal is correct.
- H) Incorrect. Hence denied.
- I) Incorrect. The rejection order is not speaking order and also passed by incompetent authority which is violation of law and rules.
- J) Not replied according to para J of the appeal. Moreover the para J of the appeal is correct.
- K) Legal.

It is, therefore, most humbly prayed that the appeal of appellant may kindly be accepted as prayed for.

APPELLANT
Rizwan Ullah Khan


Through:


(M. ASIF YOUSAFZAI)
ADVOCATE, PESHAWAR.
& 
(TAIMUR ALI KHAN)
ADVOCATE, PESHAWAR.

AFFIDAVIT

It is affirmed and declared that the contents of rejoinder are true and correct to the best of my knowledge and belief.


DEPONENT



Preliminary Enquiry

فائلنگ آرڈر
نمبر 10

فائلنگ آرڈر رپورٹ
Total ⇒ 27 pages

جناب عالی!

بحوالہ مدد 12 روزنامہ 13.01.2013 تھانہ ہویڈ انکوائری برخلاف کانٹیننٹ ناصرزمان 1469، حیات اللہ 636، شعیب 331/DFC

- رضوان اللہ 2342/EF، 2845/EF، 1625/EF، نصیب اللہ 4072/EF، فواد 379/EF اور ڈرائیور حامد 1808 مارک ہوکر
- DSP/HQ اور DSP/R انکوائری افران مقرر کئے گئے ہیں۔ اس ضمن میں جملہ کانٹیننٹ مندرجہ نقلہ بالا طلب کئے جا کر ان کے بیانات قلمبند کئے گئے۔
- 1۔ کانٹیننٹ ناصرزمان 1469 تھانہ ہویڈ۔ 2۔ کانٹیننٹ حیات اللہ 636 ہویڈ۔ 3۔ شعیب 331/DFC تھانہ ہویڈ۔ 4۔ رضوان اللہ 2345/EF پلاٹون نمبر 55 تھانہ ہویڈ۔ 5۔ عمر جان 2342/EF پلاٹون نمبر 55 تھانہ ہویڈ۔ 6۔ امتیاز 1625/EF پلاٹون نمبر 55 تھانہ ہویڈ۔
 - 7۔ نصیب اللہ 4072/EF پلاٹون نمبر 55 تھانہ ہویڈ۔ 8۔ فواد 379/EF پلاٹون نمبر 55 تھانہ ہویڈ۔ 9۔ حامد 1808 ڈرائیور تھانہ ہویڈ۔
 - 10۔ ابراہیم نمبر 1295 محرر تھانہ ہویڈ۔ 11۔ مراد علی خان CO/HQ سرکل بنوں۔

کانٹیننٹ ناصرزمان 1469/5868/FRP تھانہ ہویڈ سلسلہ نمبر 1 نے بتلایا کہ وہ مورخہ 13.01.2013 کو بصورت تبادلہ تھانہ ہویڈ حاضر آیا تھا۔ وقوعہ کے دن SHO صاحب کے ساتھ ڈیوٹی پر تھا۔ جب شیخ فرید بابا زیارت پہنچے تو SHO امام حسن گاڑی سے اتر کر ایک گھر کی طرف جا کر مین دروازے کو دستک دی۔ تو وہاں پر موجود بچوں نے بتایا کہ یہ دروازہ بند ہے دوسری طرف ایک چھوٹا دروازہ ہے جو کھلا ہے۔ اس طرف چلے جائیں۔ اس دروازے سے وہ SHO صاحب کے ہمراہ کانٹیننٹ امتیاز، نصیب، شعیب گھر میں داخل ہوئے۔ اندر جاتے ہوئے SHO صاحب پر ایک کمرے سے فائرنگ ہوئی۔ جس سے وہ شدید زخمی ہوئے۔ ہم نے پوزیشن لے کر فائرنگ شروع کر دی۔ اور اسی دوران SHO صاحب نے ہمیں بتلایا کہ فائرنگ بند کرو اور مجھے نکالو۔ ہم نے SHO صاحب کو زخمی حالت میں باہر نکالا۔ اور مقابلہ بھی کرتا رہا۔ کافی عرصے بعد APC بمعہ نفری موقع پہنچ گئی۔ اور SHO صاحب کو علاج معالجہ کی خاطر APC میں ہسپتال روانہ کیا۔

کانٹیننٹ حیات اللہ 636 ہویڈ سلسلہ نمبر 2 نے بتلایا کہ وہ مورخہ 13.01.2013 کو ہمراہ SHO صاحب گشت، تاکہ بندی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ جب نزدیکی شیخ لندک پہنچے تو SHO صاحب نے ایک مشتبہ شخص مسی حضرت عمر سنگھ ٹھکی موٹر سائیکل پر سوار پا کر گرفتار کیا۔ جس کی نگرانی کے لئے SHO صاحب نے اس کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اسی اثناء میں وقوعہ ہذا رونما ہوا۔ تاہم اس نے طرم اور موٹر سائیکل کی نگرانی کی ہے۔ اور اپنی ڈیوٹی سرانجام دی ہے۔

شعیب 331/DFC تھانہ ہویڈ سلسلہ نمبر 3 نے بتلایا کہ وہ مورخہ 13.01.2013 کو ہمراہ SHO صاحب و دیگر نفری ڈیوٹی پر تھا۔ جب نزدیکی فرید بابا زیارت پہنچے تو SHO صاحب مجرم اشتہاری امین شاہ کے گھر داخل ہوا۔ جو فائرنگ کے تبادلے میں شدید زخمی ہوا۔ اس دوران وہ چھت پر تھا۔ اور SHO صاحب نے اسے بتلایا کہ آپ مجھے اٹھاؤ۔ لیکن خطرے کی وجہ سے وہ اٹھانے سے قاصر رہا۔ کافی دیر بعد جب APC بمعہ نفری پہنچی تو SHO صاحب کو اٹھا کر علاج معالجہ کے لئے ہسپتال روانہ کیا۔

رضوان اللہ 2345/EF پلاٹون نمبر 55 تھانہ ہویڈ سلسلہ نمبر 4 نے بتلایا۔ کہ وہ مورخہ 13.01.2013 کو ہمراہ SHO صاحب و دیگر نفری ڈیوٹی پر تھا۔ تو SHO صاحب نے اچانک IPO امین شاہ کے گھر پر یڈ کیا۔ جس میں SHO صاحب شدید زخمی ہوا۔ انھوں نے مختلف پوزیشنوں سے فائرنگ کا تبادلہ کیا۔ اس کے علاوہ اس نے نہ تو کسی شخص کو نکلنے دیکھا ہے اور نہ نکلنے دیا ہے۔ دیگر وہ لاعلم ہے۔

عمر جان 2342/EF پلاٹون نمبر 55 تھانہ ہویڈ سلسلہ نمبر 5 نے بتلایا کہ وہ مورخہ 13.01.2013 کو ہمراہ SHO صاحب و دیگر نفری ڈیوٹی پر تھا۔ کہ وقوعہ ہذا رونما ہوا۔ جس میں SHO صاحب فائرنگ کے تبادلے میں شدید زخمی ہوا تھا۔ جس کو اٹھانے کی خاطر اس نے کئی بار کوشش کی جس پر فائرنگ بھی ہوتی رہی۔ تاہم مذکور نے SHO صاحب کو IPO امین شاہ کے گھر سے باہر نکالا۔ اور APC میں ہسپتال روانہ کیا۔

امتیاز 1625/EF پلاٹون نمبر 55 تھانہ ہویڈ سلسلہ نمبر 6 نے بتلایا کہ مورخہ 13.01.2013 کو ہمراہ SHO صاحب و دیگر نفری ڈیوٹی پر تھا۔ کہ راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار کو مشتبہ حالت میں گرفتار کیا۔ اور موٹر سائیکل کو کانٹیننٹ فواد کے حوالے کیا۔ جب SHO صاحب نے IPO امین شاہ کے گھر پر یڈ کیا اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ہینڈ گرنیڈ کی بلاسٹ ہوئی۔ تو خوف کی وجہ سے تمام کانٹیننٹ خواص باہر ہوئے۔ جوابی فائرنگ کی لیکن اس سے پہلے SHO صاحب زخمی ہوئے تھے۔ جس کو علاج معالجہ کی خاطر APC میں ہسپتال روانہ کیا۔ لیکن IPO امین شاہ نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر سے نکل گیا تھا۔ SHO صاحب نے ایک تو غلط FIR درج کیا ہے اور دوسرا یہ کہ ایلیٹ نفری کو شینڈنگ آرڈر کے خلاف استعمال کی ہے۔

نصیب اللہ 4072/EF پلاٹون نمبر 55 تھانہ ہویہ سلسلہ نمبر 7 نے بتلایا کہ مورخہ 13.01.2013 کو ہمراہ SHO صاحب و دیگر نفری ڈیوٹی پر تھا۔ کہ راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار کو مشتبه حالت میں گرفتار کیا۔ اور موٹر سائیکل کو کانسٹیبل نواد کے حوالے کیا۔ اسی اثناء میں SHO صاحب ایک گھر کے اندر داخل ہوا۔ لیکن انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کس مقصد کے لئے اندر جا رہا ہے۔ جو نبی وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ایک کوٹھڑا ہاشی سے فائرنگ ہوئی۔ جس کے نتیجے میں SHO صاحب زخمی ہوئے۔ اور کانسٹیبلان خوف زدہ ہو کر خراس باحتہ ہوئے۔ SHO صاحب کو علاج معالجہ کی خاطر APC میں ہسپتال روانہ کیا۔ لیکن PO امین شاہ نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ SHO صاحب نے ایک تو غلط FIR درج کیا ہے اور دوسرا یہ کہ ایلیٹ نفری کو سینڈنگ آرڈر کے خلاف استعمال کی ہے۔

نواد 379/EF پلاٹون نمبر 55 تھانہ ہویہ سلسلہ نمبر 8 نے بتلایا کہ مورخہ 13.01.2013 کو ہمراہ SHO صاحب و دیگر نفری ڈیوٹی پر تھا۔ کہ راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار کو مشتبه حالت میں گرفتار کیا۔ اور موٹر سائیکل کو اسے حوالہ کی۔ جو کہ وہ موٹر سائیکل کو لے کر پولیس نفری کے عقب جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں SHO صاحب ایک گھر کے اندر داخل ہوا۔ لیکن انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کس مقصد کے لئے اندر جا رہا ہے۔ جو نبی وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ایک کوٹھڑا ہاشی سے فائرنگ ہوئی۔ جس کے نتیجے میں SHO صاحب زخمی ہوئے۔ جس کو علاج معالجہ کی خاطر APC میں ہسپتال روانہ کیا۔ لیکن PO امین شاہ نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ SHO صاحب نے ایک تو غلط FIR درج کیا ہے اور دوسرا یہ کہ ایلیٹ نفری کو سینڈنگ آرڈر کے خلاف استعمال کی ہے۔ مزید بتلایا کہ دو عدراستے میں نہیں بلکہ ایک گھر کے اندر رہتا ہوا ہے۔ اور گھر کے اندر کے حالات وہ کانسٹیبلان بتا سکتے ہیں جو SHO صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔

حامد نمبر 1808 ڈرائیور تھانہ ہویہ سلسلہ نمبر 9 نے بتلایا کہ مورخہ 13.01.2013 کو وہ ہمراہ SHO صاحب گشت، ناکہ بندی پر بطرف چوکی شیخ انزک روانہ ہوئے۔ تو اچانک SHO صاحب نے کہا کہ IPO امین شاہ کے گھر دیکھیں گے۔ جس کو جناب DPO صاحب نے تعمیر کرنے کی اجازت دی ہے۔ جب IPO امین شاہ کے گھر پہنچے تو SHO صاحب نے کانسٹیبل حیات اللہ 636 کو اس کے ساتھ گاڑی کی نگرانی کے لئے چھوڑ دیا۔ اور بتایا نفری IPO امین شاہ کے گھر روانہ ہوئی۔ تقریباً 5/10 منٹ بعد فائرنگ کی اواز سنی تو اس نے کنٹرول روم کو کال کی کہ SHO صاحب اور IPO امین شاہ کے مابین فائرنگ ہو رہی ہے۔ اور گاڑی کو گھر کی طرف روانہ کیا۔ اسی اثناء میں دو پینڈر گرنیڈ کے دھماکے ہوئے۔ لیکن وہ خوش قسمتی سے بچ گئے۔ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ لیکن ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔

ابراہیم نمبر 1295/MHC تھانہ ہویہ سلسلہ نمبر 10 نے بتلایا کہ مورخہ 13.01.2013 کو انام حسن SHO معہ کانسٹیبلان بحوالہ مدد 12 روز نامہ 13.01.2013 بوقت 16:00 بجے کانسٹیبلان ناصر زمان 1469، حیات اللہ 636، شعیب 331/DFC رضوان اللہ 2345/EF، عمر جان 2342/EF امتیاز 1625/EF، نصیب اللہ 4072/EF نواد 379/EF اور ڈرائیور حامد 1808۔ بمزاد ناکہ بندی روانہ علاقہ ہوئے تھے۔ جو بمطابق روز نامہ درست ہے۔

مراٹھی خان CO/HQ سرکل بنوں سلسلہ نمبر 11 نے بتلایا کہ اس نے مقدمہ عدلت 09 مورخہ 13.01.2013 جرم 302/324/353PPC/3/4 ESA/ATA تھانہ ہویہ کی تفتیش کی ہے۔ جن میں کانسٹیبلان ہمراہ SHO صاحب کے بیانات لئے گئے ہیں۔ جو مقدمہ کی حق میں ہے۔

جملہ بیانات، دیگر حالات و واقعات سے پایا گیا کہ کانسٹیبلان حامد نمبر 1808 (ڈرائیور) اور حیات اللہ نمبر 636 جنہوں نے سرکاری گاڑی اور طرزم کی نگرانی کی ہے۔ انہوں نے کسی قسم کی غفلت یا بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ بتایا کانسٹیبلان عمران نمبر 2342/EF، ناصر زمان 1469، شعیب

331/DFC، عمران اللہ 2345/EF، امتیاز 1625/EF، نصیب اللہ 4072/EF اور نواد 379/EF نے واقعی غفلت اور بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کی غفلت کی وجہ سے ایک طرف نامی گرامی مجرم اشتہاری امین شاہ ایک بند مقام سے نکلنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اور دوسری طرف محکمہ پولیس ایک

As directed by DPO/Banner sheet charge to issue accordingly. SDPO/R-I 2/4/13

Approved. Show Cause Notice. "A"

محمد اسماعیل خان DSP/HQ 2/4/13

صالح علی

(3)

از دست DSP-HCO

دروانه طلای 11.2.13

دمل گمان کو مطلع کرے۔ درود کھین انکوشری دمل

زیر دستگی کو مورخہ 13²/₁₃ کو حاضر ہوئے۔

1) انک تاج علی خان بکراج انوشری گیش ہوئے

2) محمد یونس ابراہیم 1295²/₁₃



R. DSP-HCO
11.2.13

ذاریف محمد رفیق افون

افس دی گئی ہے



Reads DSP-HCO
11.2.13

3 فریوں -

= پروان طللی =

ذیل کیسوں کو مطلع کیا جاوے گا۔ نامہ نمبر زمان 1469

نمبر 4072 کا نمبر 2345
EF

نمبر 331 کا نمبر 636
DFC

نمبر 5 عرقان کا نمبر 2342
EF

نمبر 1625 کا نمبر 4072
EF

نمبر 379 کا نمبر 1808
EF

سلسلہ انگریزی حرم 30/1 بروز جمعہ صا - DS61110
013

کا نوشتی ہوئی۔ ضروری ہے

DS61110

28/11/013

سیدان انبار
مدرسہ اسلامیہ
بیت الاحیاء
بیت الاحیاء

28/11

5

صالح بن

تقدیر 12 اور باقی 13 1/3

قائم ہو

1469

روٹی امام حسن خان SHO سے 13 1/3 دنت 16:00 سے میں مع ناصر دین

سات اسٹر 636، سنیبا 331 DFC، راموان اسٹر 2345 EF، علی خان 342 EF


اقتیار 1625 EF، لیب اسٹر 4072 EF، واد 379 EF کے مسلح دہلی

یون جیکشن ویلڈ سواری گھاس سرکاروں بحوالہ ڈرائیور حامد

محاورہ تاکہ سب کو روانہ ہونے کا ہوں

صالح علی

نقل بحالہ اصل 2


Amr H. H. H. H.
23.1.13

DSRC

DSIP HODs & DSP R-1
are nominated as
joint enquiry officers to
ensure the concordance
shown by above mentioned
police constabls.



23/1

بیان ازاں قسمل ناصر زمان لکھنؤ 1469 ہجری قمریہ
FRR5868

مقام سندھان نے بدرفتاری بیان کی۔ کہ میں نے قریب 13/13 کو
صورت بنا کر FRR سے مقام سیریس صوفی کی اور 13/013

کے ساتھ گتہ کتابہ سبزی ڈرائی پر مقام سے روانہ ہوئے۔ راستے میں
صند کرنا رہا۔ جو شیخ فرید مابا زبانت تھے۔ وہاں گاڑی روک

گئی۔ بیچ اور 13/013 گاڑی سے اترے۔ تو سامنے شیخ فرید مابا
زیارت کے ساتھ آگے آئے۔ اس گھر میں گتہ کو 13/013 سے دیکھا

دی۔ تو وہاں پر حضور خوں نے بیٹھنا۔ کہ میں گتہ سبزی سے
دوسری طرف ایک چھوٹا دروازے سے وہ گھر سے آئے۔

اس چھوٹے دروازے پر میں سے 13/013 اور اعتباراً۔ لقب شعیب اندر
اس گھر میں داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی سامنے دے لکھنے سے 13/013

پر خائستہ ہوئی۔ اور اس خائستہ سے 13/013 زخمی ہوا۔ تو میں نے
وزیرین لکھنے اس لکھنے پر خائستہ کرنا رہا۔ تو اس دوران زخمی حالت میں

13/013 نے کہا۔ کہ خائستہ سبزی کو چھوٹا کٹا۔ بیچ 13/013 کو باہر لگی
میں کمال مایہ کر دیا۔ اس وقت اسی لکھنے سے دو حینڈ ڈسٹر چھیننے

گئے۔ جس سے بیچ چھوٹے 13/013 سے بیٹھ گیا۔ کہ اس چھوٹے دروازے
میں وزیرین لکھنے نام ملزم میں بیٹھ گئیں۔ اس وقت بیچ سے دیکھا

ظاہر وقتاً وقتاً خائستہ کرنا رہا۔ اور وقتاً کرنا رہا۔ کافی عرصہ کے
بعد اندھیرا نام کا تھا۔ اس دوران 13/013 لکھنے لکھنے ہوئے۔ اور 13/013

امام حسن علیہ السلام سے بدرفتاری حالت میں آگیا اور 13/013 کے حاضر حینڈ
بنوں روئے۔ یہی سبب بیان ہے دیگر میں لکھنے میں بیان میں

لکھا دیکھتے ہیں
الحمد لله
1469

صفحہ انداز کی مندرجہ = 3011
013

سوال - کتاب صفحہ 013 اسی کے ساتھ سرور کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔

جواب - جی ہاں۔ میں اس کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔

سوال 2 - وقوعہ کی صورت کے انداز میں درج کیا گیا ہے۔

جواب - وقوعہ کو یہاں پر شیخ فہیمہ بانو نے درج کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ درج کیا گیا ہے۔

سوال 3 - کتاب کے ساتھ اس کے اندر کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔

جواب - جی ہاں۔ میں اس کے ساتھ اس کے اندر کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔

سوال 4 - آپ پر کتنے لوگوں نے فائرنگ کی ہے اس کے اندر درج کیا ہے۔

جواب - جی ہاں۔ میں اس کے ساتھ اس کے اندر کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔

میں نے اس کے ساتھ اس کے اندر کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔

Attested

Handwritten signature
تاریخ 1469
ER/5868

Attested

Handwritten signature
DSP/HQ

SDPOIR-I

یہاں آزان حیات اللہ - نمبر 636 معتبر تھا، پھر نے بددیانتی کی

کہ میں صرف 1371/03 کو امام حسن 1910ء کے ساتھ گشتِ زمانہ بندری
میرٹھا۔ جب شیخ نذیر کی جوگی کے نذر اور پھر شخص قسمی جوڑے ہوئے
شہزی مریٹھا سائل پر سوار شکرک حالت میں باکر 1910ء کے مشیر
کے نذر مریٹھا رہا، اور گلہری میں پتھار دوران پر شاہ جب شیخ فرید ناما
زیارت پھیرے تو 1910ء کے نذر مریٹھا سے آئے اور قسمی جوڑے
مکتہ شکرک کے مریٹھا سائل احمد گاڑی کی نذرالی مکتہ گاڑی کے ساتھ ڈھول
رہے تو کیا۔ قسمی گاڑی کے ساتھ اور اس شخص کی اور مریٹھا سائل کی نذرالی

نذرالی جو جوڑے تھا۔ مگر تو 1910ء کے نذر مریٹھا اور شیخ فرید ناما زیارت
کے نذر مریٹھا اور 1915ء کے نذر مریٹھا کے نذر مریٹھا کی آواز تھی۔ تو قسمی
معلوم ہوا کہ پورے مریٹھا کے درمیان خانہ شروع ہے۔ تو قسمی
نے یہ اس کو مریٹھا اور مریٹھا کے خانہ مریٹھا خانہ شروع میں 1915ء
نذر مریٹھا سائل پر طرف آیا۔ اور میں بتایا کہ خانہ میں 1910ء
زخمی ہوا ہے۔ گاڑی میں نے اسے۔ گاڑی کو مریٹھا کرنے وقت

اس کے نذر مریٹھا پختہ ہی ایک مریٹھا کا دھاک مریٹھا۔ اس کے نذر مریٹھا
دھاک مریٹھا۔ اس دوران 1910ء میں مریٹھا میں۔ مگر آپ اپنے آپ
کو چائے اور مریٹھا میں نہ چلے جاتے دو۔ اس کے نذر مریٹھا کے گاڑی
میں مریٹھا روڑ پر آئے اور مریٹھا سے اس کو مریٹھا شروع میں کافی
چر کے نذر مریٹھا سائل کی نذر مریٹھا کو نذر مریٹھا میں آئی مریٹھا سائل
میں نذر مریٹھا مریٹھا مریٹھا مریٹھا مریٹھا مریٹھا مریٹھا مریٹھا
میں مریٹھا مریٹھا مریٹھا مریٹھا مریٹھا مریٹھا مریٹھا مریٹھا



شرح حوائج انکوائری امسیرز

سوال :- آپ وقوع کے دوران کہاں تھے۔

جواب :- صاب میں گاڑی کے ساتھ مسلم لہور گاڑی کی سڑکی تھیں،
نے چھڑا رکھا۔ لہور گاڑی کے ساتھ موجود تھی۔

سوال :- وقوع کس وقت ہوا اور کہاں ہوا تھی۔ اس بار میں انٹر
کونری مسلم تھی۔

جواب :- وقوع تقریباً ماہِ ذی الحجہ کے پہلے واقع ہوا تھا،
میں روزانہ سیر کرتا تھا۔

سوال :- آپ نے باپ اور کسی سے فائرنگ کی دیکھی ہے۔

جواب :- میں اپنے بھائی ناصر خان سے فائرنگ کی ہے جبکہ میرے
خویشامیوں نے فائرنگ کی ہے۔

سوال :- جواب میں ہے۔ جو کہ مسلم کے مطابق ہے۔



Attested
حیات اللہ سید 636

Attested

محمد

DSP/HQ

Muzaffar
SOPOR-I

بیان ازان چہ شعبہ منہ 331 ^{۲۱۲/۵۴۶} تھا، جو بعد نے بدریات بیان کیا،

میں اسی پر خان جو کہ لکھا تھا۔ کہ جو کچھ سارہ خان نے میرے

حوالے میں 8813706-0334 کو لکھا ہے۔ کہ آپ ^{۱۹۸۰} کا کتاب

گشت زمانہ مذہبی ہے۔ میں شمار کر رہا ہوں۔ جب میں ہجرت

رہو نزد شیخ فرید مایا بیچھے، گاڑی سے اترے تو سامنے ایک گھر میں

۱۹۸۰ کا ہے اس گھر کی میں گھٹ کر دیکھی۔ تو وہاں پر جو وہ

تین بچوں نے بیٹھے تھے۔ کہ میں گھٹ کر بند کیا ہوا ہے دوا کی ایک

معمولی گھٹ اور اور ہر دیکھ کر کوئی منہ نہ تھا۔ یہ میری گھٹ اور اور

میر 9 ناصر شعبہ 1469، امتیاز شعبہ 1625۔ لقب 4072 ^{۱۹۸۰} عہد

اس گھر کے اندر داخل ہوئے۔ تو چھوٹے دروازے کے ساتھ والی کمرے میں

داخل ہوا۔ جو وہی داخل ہونے پر ^{۱۹۸۰} کا ہے۔ یہ کمرے سے خارج ہو گیا۔

تو ^{۱۹۸۰} کا تھا جن شہید زخمی کر رہا ہے۔ اور گھر میرا تو جمع

نے فوراً خندق کی آڑ لے لی۔ اور کمرے کی طرف خارج شدہ کمرے

اس دوران کئی ناصر۔ لقب، امتیاز سے باہر خندق

کی آڑ میں آئے اور اس سے بھی اسی کمرے میں خارج شدہ کمرے

اس کے بعد ہم نے خندق کی آڑ چھوڑ کر مخالف کی طرف سے گھر کے کمرے پر چھپا

کر پوزیشن کے لئے اسی کمرے میں خارج شدہ کمرے میں اس دوران ایک

عورت نے آسن تھانہ کو آواز دی کہ کمرے سے مت نکلنا۔ اور

خارج ہونے کا اشارہ ہوا۔ تو ^{۱۹۸۰} کا ہے۔ آواز دی کہ میں زخمی

ہوا ہوں۔ چھ کنگال مایا کر رہا۔ خارج شدہ کمرے میں نے

عمر خان کتبہ منہ 2342 ^{۱۹۸۰} کو کہا۔ کہ آپ ^{۱۹۸۰} کا کتاب کو مایا لکھا۔

جوشی عمر جان کینل ۱۹۹۰ء کے پاس دوران سہرا تو۔ مگر سہرا کی طرف سے
 ایک حنیفہ زینبہ امین شاہ مکران کھنڈ دیا۔ اس وقت تک سہرا
 کینب، ناصر۔ امتیاز جوئے دروازے کے ساتھ تھے۔ کہ امین شاہ نے
 دوسرا حنیفہ زینبہ کھنڈ دیا۔ اس وقت سہرا اور عمر جان، کینب ناصر
 امتیاز نے اپنے اپنے کی خاطر جوئے دروازے باہر آئے اپنے پوزیشن
 لئے بیٹھے تھے۔ جب امین شاہ نے سہرا کے دروازے پر اس کو جھک
 کر دیا تھا۔ تو اس نے امین شاہ کو دیکھا۔ اور اس پر فوراً فائرنگ کر دی۔
 میرے اس فائرنگ سے امین شاہ مگر کے دروازے میں لگ کر زخمی ہوا
 اور شور مچا دیا۔ اس دوران چچہ پر خلاف سمت سے فائرنگ ہو رہی تھی۔
 وقوف۔ بلوچ کے غور و خوار سے اس دوران نام کا اندھیرا ^{چھایا} پڑا تھا۔
 اور اس سے ہی فائرنگ ختم ہو گئی تھی۔ کہ اس دوران ۱۹۹۰ء کا واقعہ سننے
 چچے اوارڈ کی کمر آب پھینکے اشرواب امین شاہ گھبرے میں چچے اٹھاؤ۔
 تو اس نے قطر سے تھر سے ۱۹۹۰ء کو زخمی حالت میں آگے سے قاصر دیا۔
 کافی دیر تک لگب لگ کر زخمی ہے ۱۹۹۰ء پیرمٹی۔ اور ۱۹۹۰ء کو زخمی حالت
 اس گھر سے آگے لگا۔ اور کوفی صبح و ظہر سول ہسپتال میں لے جایا۔
 یہی ہسپتال ہے۔ یہاں سن لگا۔ جسے علم کے مطابق درستی ہے۔

العمر

331
 24/10/90

S

شرح تجانب انٹرویو سسرز

سوال = آپ تجانب اطراف سے فائرنڈ کرنے سے کئی شخص کو دیکھا
مانیجیاں تھیں؟

جواب = مجھ پر فائرنڈ اہل سسرز چھیننے والے شخص اسن تک تھا۔ کمرنگ
وہاں پر جوں سے ان نام اسن لایے۔ یہ سچا ہے۔

سوال = وقوع کس وقت لکھ گیاں روکا ہے؟

جواب = تقریباً ماہِ محرم 1313 ہجری بمقام ماہِ مارچ
مزدکی اسن ماہ کو گھر میں روکا ہے۔

سوال = اس وقت کس کس وقت لکھ گیاں روکا ہے؟

جواب = تقریباً دو گھنٹے کے بعد Alk گاڑی فوری بیچ ہواں میں
لکھ گیاں کو وہاں سے رسمی عدالت میں آئی گاڑی اور اسن
فرض عدالت میں لکھ گیاں نے روکا ہے۔
کئی شرح سوال جواب میں لکھ گیاں لکھ رہے
ہیں۔

Attested
Ministry
SDPOIR-I

Signature
331
Date

Attested
Ministry
DSPHQ

بہان ازان کیسے لکھیں اور نمبر 2345 ملہاؤں کی کتاب ہے

مدیریت بہان کی۔ میں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی۔ تاہم ہندی
 ذرا لکھ رہا تھا۔ جب فتح خدیجہ کا زمانہ آیا تو اس کی انگریزی میں لکھی گئی۔ گازی
 گواہ کے گازی سے اترے تو سامنے ایک گھر وہاں کے گاہک سے فتح خدیجہ کا
 زمانہ کے نزدیک ایک گھر کے طرف دیکھا۔ جب وہاں سے اس گھر
 کے نزدیک میں گھٹ پر پہنچے تو وہاں سے اس میں گھٹ کو دیکھا۔
 وہاں جوں میں تھا۔ کہ یہ گھٹ بند ہے۔ دوسرے طرف ایک گھٹ
 پر تھا۔ تو وہاں سے ہم تیزی سے گھر میں داخل ہوئے۔ خداداد وہاں سے
 اس میں گھٹ کے سامنے گھر آ رہا تھا۔ وہاں ہم دیکھ کر غریب دوسری طرف چلے
 گھٹ کی طرف رہا۔ وہاں سے گھٹ کے گھٹ سے خاندان آ رہا تھا۔ تو
 میں نے گھر سے پوچھا کہ کیا ہے۔ تو وہاں سے جواب دیا کہ وہاں سے گھٹ سے
 یہ سن کر ہم نے اس گھر کے گھٹ سے دروازے کی طرف چلے گئے۔ اور وہاں
 پر زینت ملی۔ خاندان جاری تھا۔ کہ اس دوران ایک ہینڈ ٹرننگ کا
 دھماکا ہوا۔ تقریباً 30 منٹ کے بعد دوسرا دھماکا ہوا۔ تو ہم نے اس
 گھر سے پوچھا کہ خاندان آ رہا ہے۔ تاہم کوئی شخص اس طرف گھر سے نہ نکلا۔
 یہاں طرف سے کوئی شخص نہ نکلا۔ بعد میں میں نے کہا کہ یہاں سے وہ
 تقریباً 10 بجے غصہ و عجز ہوا۔ ہم اندر سے پوچھا کہ کافی دیر
 بعد غریب سے انگریزی میں اس غریب نے وہاں سے کوئی شخص نکلا۔
 اس گھر سے آئے گا۔ بعد میں میں نے غریب سے کہا کہ وہاں سے
 نکلا۔ دیکھ میں نے علم ہوا۔ یہی وہاں سے سن لیا

درست ہے
 العبد
 محمد ازان

شرح مخازن انٹرویو آنسپر

سوال = کیا آپ نے امام حسن کے ساتھ ڈیڑھی بھرنا۔

جواب = جی ہاں میں نے امام حسن کے ساتھ ڈیڑھی بھرنا۔

سوال = کیا سیراز وقت آپ اس ماہ کے گھر کے اندر تھا یا باہر؟

جواب = میں اس دن اس ماہ کے گھر کے مشرق کی طرف دروازے کے ساتھ تھا۔

سوال = کیا آپ پر کسی شخص کو فائرنگ کرتے وقت دیکھا ہے یا آپ کی طرف کوئی شخص مسلح آیا ہے یا دیکھا ہے۔

جواب = میرے طرف سے کوئی شخص مسلح آیا ہے۔ لعدہ دیکھا ہے۔

مکمل شرح سوال، جواب میرے علم کے مطابق درست لعدہ

Received

Attested

رفیق انیس 2345 EF

SDPOIR-I

Attested

DSP/HQ

بیان از ان کسبل طرخان 2342 مسقطی خانہ سر بدر لہڑوں نمبر 55 اہلیٹ
 نے بدرمانت بیان کیا کہ سیم باغ کسبل امتیاز نمبر 1625 کسبل ان کے
 2345 - نصیب خان 4072 - فرادخان 379 مارک خانہ سر کناوردی
 حصے سے تھے کہ فرادخان اور ذری کے 500 حصے کے ساتھ ہر ایک حصے ہائے ہندی
 مرحلے - تو سیم باغ کسبل گاڑی میں 500 حصے کے ساتھ ہر ایک حصے ہائے ہندی
 ہندی روزانہ ہوتے - جب شیخ فرید ماما زبیرت پہنچے وہاں گاڑی سے اترتے
 تو وہاں ہر ایک گھوڑی طرف روانہ ہوتے - اس گھوڑی میں ٹکٹ کو بچھڑ تو 500
 حصے کے ٹکٹ کو دیکھتے رہے - تو وہاں ہر چوں نے ہمیں بتایا - کہ یہ ٹکٹ
 ہندی سے دوڑا کی طرف چھوڑا دروازے ہائے - تو 500 حصے کے چھ لہڑوں طرخان
 رضوان اور خواجہ توسین گھوڑی کے ساتھ گھوڑا اترنے کو گیا - تو سیم وہاں گھوڑی
 سے - اور لہڑیاں لہڑی 500 حصے کے ساتھ - چھوڑے دروازے اس گھوڑی طرف
 چلے گئے - تو پانچ حصے کے بعد خانہ کسبل کی اواز اس گھر میں سنی - خانہ کسبل
 ہی سیم ہتھوں سے عدوہ عدوہ پوزیشن نکالیں - کہ اس دوران امتیاز
 عدوہ ماہ کسبل جو گاڑی کی طرف بھاگ رہا تھا - تو سیم نے اڑنے سے بچھا کر لیا
 ہوا تو امتیاز نمبر 1625 نے کہا - کہ 500 حصے - خانہ کسبل زلفی ہر ایک میں
 گاڑی کی طرف جاتا ہوں - کہ وہ کال میں لہڑ لہڑی منگوائے - تو سیم
 میں ٹکٹ کو بچھڑ کر چھوڑے دروازے اس گھوڑی طرف آیا - تو وہاں ہر
 نصیب لہڑیاں کسبل کے حصے کے تھے اور ان کے علاوہ - تو سیم نے
 جو کہ ٹکٹ کے حصے سے تھے اواز دی - کہ میں نے عدوہ کو کو کور لیا
 ہے اس 500 زلفی سے 500 کو آگیا - تو سیم 500 حصے ہائے اس آگیا
 سیم نے سیم سے یہی کہ چھ ہر خانہ کسبل ہوں - میں نے اپنی جان جانے
 کہ وہاں ہر ایک حصے کے خدق کے ساتھ اترے ہیں - (۵۰۰)

تو لکھنؤ گیا ۱۱/۱۱/۱۹۶۵ء تک رہا اور پھر وہاں سے ہٹا کر اس وقت لکھنؤ گیا۔
 اور وہاں سے لکھنؤ گیا۔ اور وہاں کو زرعی حالت میں آگیا۔ جب یہ
 حصہ ختم ہوا تو اس کا زراعت منبجی ہوئی۔ تو حیدر کا دھکا پورا۔ ایسے
 حالت میں وہاں کو زرعی حالت میں گھر سے باہر ملک میں نکال دیا
 اور وہاں جو زمین تھی، نامہ زمین کو لکھا۔ کہ اب وہاں کو زرعی ہے اس کو
 نکھال میں سے گاڑی کرنے آتا ہو۔ تو گاڑی ریلوے پر آئے ہی ہو گئے
 حیدر کا دھکا پورا۔ تو سمجھو گاڑی کو وہاں زراعت شیخ فرید بابا کی طرف سے
 آئے۔ خانہ بیک شروع ہوئی۔ تو وہاں شیخ فرید بابا زراعت کے نام سے زمین
 پوزیشن نکھال میں۔ اور اس گھر پر پورا کی خانہ بیک کرنا رہا۔ اس دوران
 کافی عرصہ تک لکھنؤ میں ہی رہا اور وہاں تک پہنچ گیا۔ اور وہاں کو زرعی
 حالت میں اس گھر سے آگیا کہ زمین مندرجہ ملک نکھال میں بھی لکھا گیا
 دیگر میں لاہور میں بھی عید ایسٹن کے نام سے لکھا گیا ہے۔

Attested
 DSP/HQ

محمد
 محمد حسان 2342
 E

محمد صاحب انکوائری آفیسر

Attested

Signature

Sd/- R-I

سوال :- وقوع کس وقت اور کہاں ہوا؟

جواب :- وقوع لکھنؤ میں ہی ہوا اور وہاں سے لکھنؤ گیا۔
 سوال :- لکھنؤ میں کس وقت اور کہاں سے لکھنؤ گیا؟
 جواب :- وہاں سے لکھنؤ گیا اور وہاں سے لکھنؤ گیا۔
 سوال :- لکھنؤ میں کس وقت اور کہاں سے لکھنؤ گیا؟

جواب :- وہاں سے لکھنؤ گیا اور وہاں سے لکھنؤ گیا۔
 محمد حسان نے لکھا ہے کہ وہاں سے لکھنؤ گیا۔

محمد حسان

حلفاً بیان کرتا ہوں کہ مورخہ 13⁰¹/₂₀₁₃ کو ہم ایڈیٹ فورس کے باج کاشیبل میں مسٹر
ناوردی گھانے کے دوسری منزل پر موجود تھے کہ اچانک مشتعل گھانے نے اواز دی
کہ SHO صاحب علاقہ خارجے ہیں باج کاشیبل مسٹر اترو۔ جو ہم باج کاشیبل
فواد خان، نصیب خان، رضوان خان اور عمر جان فوراً بھیجے تھے تھے اور ہم SHO صاحب
کاشیبل گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار کو SHO صاحب
نے گھرا لیا، اسٹریٹ لائٹس کی موٹر سائیکل کے کانڈرٹ گھسائے، مگر وہ کوئی
کانڈرٹ پیش نہ کر سکا، اس شخص کو گاڑی میں بیٹھا یا اور موٹر سائیکل
کاشیبل فواد خان کو حوالہ کر کے ایسی راہ روانہ ہوئے، فواد خان بھی ہمارے
عقب موٹر سائیکل پر روانہ ہوا، جب شیخ منیر پرانا زیارت پہنچے، تو گاڑی روک
گئی، ہم تمام نفری گئے SHO صاحب آتے تھے، تو ہمارے سامنے ایک
گھر تھا، SHO صاحب نے کاشیبل فواد خان، عمر جان اور رضوان کو باہر الٹ
رہنے کی ہدایت کی، ہم کاشیبل میں نصیب خان، ناوردی خان اور نصیب خان
کو اپنے ساتھ کر کے اس گھر کے اندر داخل ہوئے، لیکن ہمیں یہ نہیں تھا کہ
وہ کس غرض اور مقصد سے اس گھر میں داخل ہوئے، جو ہمیں ہمیں معلوم
میں گئے تو سامنے ٹوٹے پائے سے SHO صاحب ہمیں آگے بڑھائے، جو ہمیں ہمیں
جو SHO صاحب نے کرنا تھا، اس اچانک فائرنگ سے ہم کاشیبل میں اس واقعہ
ہوئے، ہم نے اس کو ٹھہرا فوراً فائرنگ شروع کی، لیکن آگے کوٹھ سے
پلے لعد دیکھتے دو دیکھی ہم ہم درجہ بھرتے، تو SHO صاحب نے
ہم پر اذالہ کی کہ فائرنگ سے روکے، مجھے لگا کہ وہ خود ہی نکل جاؤ، نصیب
فوراً SHO صاحب کو اس گھر سے باہر نکالا، کہ اتنے میں SHO صاحب نے
کہ گیت پر گھر سے بچاؤ، کہ شخص ملزم باہر نہ نکلے، اتنے میں سرگرمی APC
گاڑی آئی اور SHO صاحب کو بغرض علاج معالجی سول ہسپتال روانہ کیا، فزیر
نفری اور افسران پہنچے، لیکن منقولہ ملزم گھر سے اندر چھپے گا مگر انھوں نے
نکل چکا تھا، SHO صاحب نے اس کو غلط FIR درج کیا ہے، دو سوا ہے کہ
ہماری ایڈیٹ فورس کی نفری سٹیڈ آؤٹ کے حدود استعمال کی ہے
جس میں میرا کوئی قصور نہیں

جمع خواب انور امی کسے

سوال :- وقت تک اور کال روکا ہوا تھا

جواب :- تقریباً ناخ کے عصر پر روکا ہوا ہے، سچ فیدر یا پورٹ کے نزدیک ایک گھنٹے

سوال :- کتاب سے کون سا حصہ اس گونے اندر داخل ہوا ہے یا نہیں؟

جواب :- میں کتاب سے کون سا حصہ اس گونے اندر داخل ہوا تھا۔ اور فرماتا اس گونے موجود تھا۔

سوال :- مسلم آئین شاہ کو کتنی وقت آگ لگا رہا ہے یا نہیں؟

جواب :- میں نہیں دیکھا ہے

سوال :- اب صرف 13/01 کو اس کے ساتھ ڈروں پر تھے

جواب :- جی ہاں۔ میں 13/01 کو اس کے ساتھ ڈروں پر تھا

بمقامہ سوال جواب میں علم کے مطابق ہے اور رہتا ہے

Attested
Munir
SDPOIR-I

Attested
Munir
DSP HQ

بیان آراء مائیل لیب خان نمبر 4062 ایسٹ فورس کھانہ حوالہ صاحب کالی

30/1
013

صفا بیان کرتا ہوں۔ کہ درخ $\frac{01}{2013}$ 13 ایم ایس فورس کے ہاتھ مائیل
 مسلح باوردی تھانہ کے دوہری منزل پر موجود تھے۔ کہ اجانب نفسی تھانہ
 آواز دی۔ کہ صوبہ صوبہ جارے ہیں۔ ہاتھ آسان مسلح آٹرو۔
 3 ایم ہاتھ آسان ہیں۔ وادخان۔ امتیازخان۔ رضوان خان اور عرفان فوری
 آئے۔ اور صوبہ صوبہ لیاقت ماری میں بیٹھ گئے۔ راس میں آٹو مائیل
 سوار صوبہ صوبہ نے کفر کیا۔ اسی تھانہ کی۔ فوری مائیل کے مالکات طلب آئے۔ مگر
 کوئی مالکات نہیں رہے۔ اس شخص کی ماری میں بٹھایا۔ اور فوری مائیل فوری خان
 کو فوری کے اسی راہ روانہ ہوئے۔ فوری خان کو یہ غیب لڑ مائیل پر روانہ ہوا۔
 جب شیخ فرید نایا زیارت پر گئے۔ تو ماری ڈک ٹی۔ ہم مقام لغزی تھے آئے
 ماہنے آئے۔ گھر تھا۔ صوبہ صوبہ نے مائیل فوری خان۔ عرفان اور رضوان کو باہر
 دینے کی ہدایت کی۔ اور ہم مائیل میں۔ شہید۔ 11۔ ناصر۔ اور امتیاز کو اپنے ساتھ
 گئے اس گھر سے اندر داخل ہوا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا۔ کہ وہ کس طرف اور کس
 آئے اس گھر سے داخل ہو رہے۔ جو وہی ہم صحن خانہ میں گئے۔ ماہنے کو کھڑا
 ہے صوبہ صوبہ مائیل لیب خان فوری۔ 3 صوبہ صوبہ لیب خان لیب خان۔ اس اجانب
 فوری کے ہم مائیل فوری فوری اور فوری بافتہ تھے۔ ہم نے اس کو کھڑا لیب خان
 کی لیکن اسی کو کھڑے سے لے لے دیکھے۔ دو دہشی ہم ہم پر چلے گئے۔ تو صوبہ صوبہ
 ہم پر آواز کی۔ کہ فوری فوری کرو۔ مجھے نکالو اور فوری نکل جاؤ۔ ہم نے فوری
 صوبہ صوبہ اس گھر سے باہر نکالا۔ کہ آئے میں صوبہ صوبہ نے کہا۔ کہ آئی لیب خان
 ہو جاؤ۔ کہ شخص ملزم باہر نہ نکلے۔ آئے میں Pe ماری آئی۔ اور صوبہ صوبہ کو
 روانہ کیا۔ فرید لغزی اور افغان ہوئے۔ لیکن شخص ملزم گھر سے اندر ہوئے مائیل فوری
 کونسل صفا تھا۔ صوبہ صوبہ نے آئی فوری FIR دیا تھا۔ 5 دہشی ہماری ایسٹ فورس
 کو لغزی مائیل اور مائیل مائیل تھا۔ صوبہ صوبہ لیب خان فوری فوری

Handwritten signature or initials at the bottom left of the page.

صحیح جواب اندواری مسٹر

سوال :- کتاب حرم 1311 کو 1313ء کے ساتھ ڈرائیو کر کے

جواب :- کتاب میں حرم 1311 کو 1313ء کے ساتھ ڈرائیو کر کے

سوال :- دو کس وقت اور کہاں روٹا ہے

جواب :- دو کس وقت اور کہاں روٹا ہے

سوال :- اس گھر میں کون کون کون ہے

جواب :- اس میں استیوار، لیبر، انامہ، میرا، اور کون کون ہے

سوال :- آپ نے اس گھر میں کون کون سے کام کرائے دیکھے ہیں

جواب :- میں نے کون کون سے کام کرائے دیکھے ہیں

تعمیراتی جرح سوال جو اس کے علم کے مطابق ہے

Attested
M. M. S. F.
SDPOIR-I

Attested
DSP/HQ

سوال :- آئیے اپنے عزیز ترین لوگوں کو یاد دلائیے اور یہ سب کچھ لکھ لکھ کر اپنے کسی عزیز کو بھیج دیجئے۔

جواب :- ہر روز صبح کو یہ دعا پڑھیں اور اپنے عزیزوں کو یاد دلائیے اور یہ سب کچھ لکھ لکھ کر اپنے کسی عزیز کو بھیج دیجئے۔

سوال :- کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی کیا علامتیں ہیں؟

سوال :- وقت کب لکھنا شروع کریں اور کس وقت؟

جواب :- یہ دعا صبح 5 بجے اور شام 5 بجے پڑھیں۔

Handwritten signature

خودشان 379 جنرل ہریہ
EF

Attested

SDPOIR-I

Attested

SDPIHQ

بیان آراء - حامد خان نمبر 1808 در انور قلعہ سرحد نے دیا ہے

بیان کیا کہ میں نے 1840ء میں امام حسن علیہ السلام نے دیا ہے

مطرف جوگی شیخ نذیر اللہ سے - تو جاننا 1840ء میں کیا

کہ آسن ماہ کی گھر دیکھیں گے جو خدا - وہاں نے لکھنے کرنے کا اجازت

دے دی ہے وہاں روانہ ہو کر میں نے 1840ء میں لکھی شیخ فرید بابا

کا ساتھ اور ڈیڑھ آٹھ سے تو 1840ء میں کس حالت اللہ 636 کو

میں ساتھ گاڑی کی نڈائی لکھی فرور دیا - اس کے بعد 1840ء میں

میں لکھی آسن ماہ کی گھر واقع شیخ فرید بابا روانہ ہوئے - تو 1840ء

کے بعد فائرنگ کی آواز سنی - تو میں نے کئی روزوں کو کال کی

کہ 1840ء میں امام حسن اور مسلم آسن ماہ کے درمیان فائرنگ ہو رہی

ہے - آسن کے بعد میں آسنی گاڑی کر کے چلے گئے اور وہاں کیا

مسلم مسلمان آسن ماہ کی گھر کی طرف سے 2 حصہ آسنی بہا طرف لکھی گئے

تو حصہ آسنی مسلم کی گھر کی طرف چلے گئے اور ہم خوشی حتمی سے چلے گئے -

و قوم کو قہراً نام کے حضور و ہم اوفانہ سے - کافی دور لکھی بہا کی

لکھی حالت اطراف سے پہنچی - فائرنگ کا سارا سہارا لکھی لکھی

نے تمام سہارا لکھی لکھی سے فائرنگ آگے ہوئے فائرنگ میں کھینچ

ہوئے - بیان دیتے ہیں

Hamed Khan

حامد خان - 1808

در انور قلعہ سرحد

ترجمہ صحیح صحابہ ائمہ کی اہمیت

سوال :- کتاب اہمیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کس نے فرمایا ہے

جواب :- اس کے بارے میں صحیح معلوم نہیں ہے۔
سوال :- کیا کاتبین صحابہ اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی اہمیت صحیح ہے۔
جواب :- جی ہاں۔ کاتبین صحابہ اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی اہمیت صحیح ہے۔
سوال :- کتب سے آپ کو کون سا اثر ملتا ہے اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔

جواب :- صحابہ اس وقت سے تقریباً 20 سال پہلے تھے اور ان کے بارے میں
آج تک - کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 20 سال پہلے تھے اور ان کے بارے میں
میں کاتبین صحابہ اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی اہمیت صحیح ہے۔

سوال :- فائزہ بنت زبیر سے فرماتے ہیں کہ آپ نے صحابہ اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں۔

جواب :- میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اہمیت کے بارے میں
کاتبین صحابہ اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی اہمیت صحیح ہے۔
مطابق فرماتے ہیں۔

Hamed Khan

صدر دفتر 1808

Attested

SDDOIR-7

Attested

hand

DSP/HQ

302-324-353-34
TATA | ESA
13/13

Handwritten Urdu text, possibly a signature or name, written in a cursive style.

Handwritten signature: *Si / Hameed*
13.2.13

ورم 13 1/3 کو اناج دن کا 800 نمہ تیلوں اور ادریس 12 نمہ 13 1/3

نوفت 16000 نمہ تیلوں نامہ رحمان 1469 - صلیب نمہ 636 شیب 572

مغز (درمتر) 2345 - کمر جان 2342 - دستار 1825 - لعیب نمہ 4022

نولہ 379 - صلح و صلح نمہ تیلوں و نمہ تیلوں لوارا کارنی

میرا نمہ نمہ تیلوں و نمہ تیلوں 1808 نمہ تیلوں نمہ تیلوں نمہ تیلوں

درست نمہ تیلوں نمہ تیلوں نمہ تیلوں

M. J. Hamed

Attested

Munir/Suit

SDPOIR-I

Attested

Humid

DSP HQ

ہاں - ازان فراوانی مان CO/HQ سرکاری سہولت

ہاں کی - کہیں سے فراوانی 9 اور 302-324-353
314 ESA/7A/1A 013

موجودہ کی کہیں سے - حق سے کہیں سے فراوانی
انہی حق کی بنا پر - کہیں سے - فراوانی حق سے

ہاں سے کہیں سے

الکھتہ

فراوانی مان CO/HQ

Attested

SOPOR-I

Handwritten signature/initials

Attested

Handwritten signature/initials
DSP/HQ

(21)

1

INQUIRY FINDINGS REPORT

This findings report is the result of departmental probe against police officials namely:-

FC Umer Jan No.2342/EF, FC Rizwan Ullah No.2345/EF, FC Imtiaz No.1625/EF, FC Nasib Ullah No.4072/EF, FC Fawad No.379/EF of Platoon No.55, FC Nasir Zaman No.1469 and FC Shoaib No.331 DFC while posted to PS Haved were found to indulge in misconduct under the following allegations:

- o That after conducting preliminary inquiry by DSP/HQrs and SDPO, Rural-I they while posted to PS Haved were found negligence and cowardice.
- o That on 13.01.2013, they were deputed for Naka Bandi duty with SI Imam Hassan Shaheed the then SHO PS Haved, 01 accused namely Amin Shah started firing upon SI Imam Hassan Shaheed in the premises of Sheikh Farid Baba. Resultantly, he was sustained injured and after then he got embraced martyrdom.
- o The accused decamped from the scene after the commission of offence without any hindrance while they have, become a silent spectators. Thus they have ceased to become good police officials as well as guilty of misconduct.
- o That they have ceased to become good police officials by committing the above commission/ omissions.

Charge sheets with summary of allegations to all the aforesaid officials were issued on 11.04.2013 by worthy DPO Bannu and the undersigned was appointed as inquiry officer to hold department proceedings against the accused officials.

Prior to the issuance of above, preliminary inquiry through DSP/HQ and SDPO Rural-I was conducted and the above mentioned officials were held responsible for cowardice and negligence during the encounter with the militant PO Amin Shah.


On receipt of the papers from the dealing hands SRC, all the accused officials were summoned and copy of charge sheet with summary of allegations were supplied to them for reply and explanation. Their replies to charges received, placed on file and reproduced below.


1) REPLY OF CONSTABLE UMER JAN NO.2342/EF.

He explained that he had accompanied the SHO Imam Hassan Shaheed for patrolling in area Sheikh Farid. SHO stopped the mobile in front of one house and asked him, Fawad and Rizwan to stand alert with the mobile vehicle while he along with other strength entered the house. After some while, firing and two blasts were made in side the house. Imtiaz constable came out hurriedly and told about the injury of SHO. Shoaib DFC present inside the house called him (Umerjan) to enter the house for shifting injured Imam Hassan outside the house. He went inside the house and firing was made at him but escaped unhurt. He has not witnessed any accused nor identified. He blamed the SHO for getting some illegal gratification from the accused and scribed/ prepared wrong report for his martyrdom.

2) REPLY OF CONSTABLE FAWAD:-

He stated that in fact SHO Imam Hassan had gone to the house of PO Amin Shah for getting illegal monthly gratification and due to non paying the same wrong FIR was made. He with Rizwan and Umer Jan were standing alert with the mobile vehicle while SHO with other police entered the house. After some while firing was heard. SHO Imam Hassan in injured condition was brought and thereafter shifted to hospital. Due to spread of evening darkness, the accused decamped from the spot.


Undersigned



3) REPLY OF CONSTABLE RIZWAN NO.2345/EF.

He explained that mobile vehicle stopped in front of one house. He constables Fawad and Umerjan were asked by SHO Imam to stand alert with vehicle while SHO with other police entered the house. Firing was heard. SHO Imam in injured condition was brought and shifted to hospital. At the spreading of evening darkness, police nafri reached and searched the house but no accused was found. He blamed the SHO for getting illegal gratification from the PO/Amin Shah and prepared wrong statement/ report for his getting package of martyred. He used derogatory words for the SHO Imam Hassan.

4) REPLY OF CONSTABLE NASIR ULLAH NO.4072/EF

He stated that he with SHO Imam, Imtiaz, Nasir, and Shoaib DFC entered the house. Meanwhile burst fire was made from the room, SHO Imam Hassan was hit and injured. Two bombs were blasted. Due to smoke, nothing was visible. After sufficient time, injured SHO was shifted to hospital and passed away. He blamed that the FIR of SHO Imam was wrong and his intention was not to arrest the PO but to receive/ get illegal gratification from the PO Amin Shah.

5) REPLY OF CONSTABLE NASIR ZAMAN NO.1469/FC:

He stated that he with SHO Imam, Imtiaz, Nasir, and Shoaib DFC entered the house. Meanwhile burst fire was made from the room, SHO Imam Hassan was hit and injured. Two bombs were blasted. Due to smoke, nothing was visible. After sufficient time, injured SHO was shifted to hospital and passed away. He blamed that the FIR of SHO Imam was wrong and his intention was not to arrest the PO but to receive/ get illegal gratification from the PO Amin Shah.

6) REPLY OF CONSTABLE IMTIAZ ALI NO.1625/EF

He stated that on the day of occurrence, he along with other constables accompanied the late Imam Hassan ex-SHO PS Haved to the house of accused Amin Shah. As they entered into the house, firing was made from the room. Resultantly SHO was hit and fell on the ground. Two blasts were also made. Due to heavy smoke, nothing was visible. At the evening darkness time police nafri came and the injured SHO was shifted to the hospital where he passed away. He blamed SHO and DFC Shoaib for the alleged incident. He was unaware about the area and did not know for what purpose the SHO had gone to the house of accused. However, it was rumored that the SHO had gone to the house for the purpose of getting illegal monthly gratification from the accused. He claimed himself to be innocent in the incident.

7) REPLY OF FC MUHAMMAD SHOAIB NO.331 DFC PS HAVED.

He stated that he along with late Imam Hassan SHO PS Haved and other police party were on patrol duty in area of Sheikh Farid Baba. When they reached to the place of Sheikh Farid Baba, SHO boarded from the official vehicle and set out on foot to the nearby house. Constable Naseeb Ullah, Imtiaz, Nasir Zaman and he accompanied the SHO. They entered into the house. In the courtyard one person was searched and they were entering into a room, abrupt firing was made from the room. Resultantly SHO was hit and fell on the ground. He and other constables took the position near the corner as well as on the roof of the room. They made firing with the accused for about 15 minutes. After sufficient time, constable Umer Jan was directed to shift the injured SHO to the official vehicle. During this process, Amin Shah threw hand grenades which was blasted. He along with other

*N. Ali
C.O.*

Attested

Inch. ...
D.P. ...

[Signature]

EVIDENCE:

(1) STATEMENT OF MURAD ALI INSPECTOR INVESTIGATION OFFICER PS HAVED::

He has conducted investigation of case FIR No.09 dated 13.01.2013 u/s 302,324,34 PPC/ 7ATA PS Haved. He prepared site plan on the pointation of eye witnesses and recorded statement of eye witnesses namely constable Nasir Zaman, Shoaib DFC, Naseeb Ullah, Imtiaz, Umer Jan, Rizwan Ullah, Fawad Khan, Hayat Ullah and driver Hamid Khan under 161 CrPC. As per the statement of witnesses the occurrence has taken place in the street outside the house. He has also collected blood stained earth from the place of deceased Imam Hassan, empty shells from the places of accused and police constable who had fired in self defense. 5 spent bullets from the wall of once Sabir Shah and taken into possession. He also recovered one liver of hand grenades from the gate of accused Amin Shah. After completion of investigation, he submitted complete challan against the accused for 512 CrPC proceedings.

(2) STATEMENT OF UMER KHETAB ADDL: SHO PS HAVED:

He stated that on receipt of information regarding the incident, he along with police party went to the spot in a private vehicle and sieged the place of occurrence. Meanwhile DSP Rural Musanif Shah with police party also reached to the spot. Injured Imam Hassan SHO was found in the street near the house of accused Amin Shah and shifted to the hospital. He along with nafri of SHO Imam Hassan started search of the accused in the surrounding area but due to darkness, they had decamped from the spot.

(3) STATEMENT OF FAYAZ ALI SHAH IHC EMERGENCY STAFF DISTRICT HEAD QURTER HOSPITAL BANNU.

He stated that late Imam Hassan ex-SHO PS Haved in injured condition was brought to the emergency and was able to speak. The report of Imam Hassan was recorded in shape of murasla which was read and signed by him. Imam stated in his report that during patrolling when he reached to the thoroughfare of village Sheikh Farid where accused Amin Shah along with unknown accused duly armed with Kalashnikov made firing at police party and also threw hand grenades. Resultantly he was hit and got injured. Imam Hassan had received different fire arms injuries on his body and due to said injuries, he passed away in Peshawar hospital. In a cross examination, he (Fayaz Ali Shah) refused the suggestions of accused officials that he has not written the murasla report nor signed the same from Imam Hassan.

(4) STATEMENT OF MUHAMMAD IBRAHIM IHC EX-MUHARRER PS HAVED.

He explained that the book of Roznamcha was in his possession and all the entries of departure and arrival of officials were used to made by himself or through Addl: Muharrer. Daily diary report No.12 dated 13.01.2013 PS Haved wherein SHO Imam Hassan along with constable Nasir Zaman, Haya Ullah, Shoaib DFC, Rizwan, Umer jan, Imtiaz, Naseeb Ullah, Fawad and driver Hamid in official vehicle had departed for patrolling and naka bandi in the area. All the officials were equipped with official rifles, bullet proof jackets and helmets.

He received information through wireless that firing had taken place between terrorist Taliban and police in the area Sheikh Farid Baba. Addl: SHO Umer Khetab along with police party departed to the spot while information were conveyed to high ups. Daily dairy report No.19 dated 14.01.2013 with nafri of SHO has returned to PS Haved. Attested copies of all the DD reports were produced and placed on file. In a question, he explained that police party had fired 1023 rounds of 7.62 Bore in an encounter with the terrorists but no single empty shell produced to him.

Attested
[Signature]

(5) STATEMENTS OF ACCUSED CONSTABLES:

All the accused constables relied on their written reply already submitted and they did not wish to produce any defense witness in support of their plea.

CONCLUSION:

Careful study of statements of witnesses/ accused officials, replies of accused officials and record of case FIR No.9 dated 13.01.2013 u/s 302,324,34 PPC/7ATA PS Haved reveals that late Imam Hassan SHO Haved along with police party / constables namely FC Umer Jan No.2342/EF, FC Rizwan Ullah No.2345/EF, FC Imtiaz No.1625/EF, FC Nasib Ullah No.4072/EF, FC Fawad No.379/EF of Platoon No.55, FC Nasir Zaman No.1469, FC Shoaib No.331 DFC and driver Hamid in official vehicle were on patrol duty in the area when they reached to the thoroughfare village Sheikh Farid Baba where accused Amin Shah with unknown accused duly armed with Kalashnikovs and hand grenades made firing and threw hand grenades over them resultantly, Imam Hassan was hit, fell on the ground and remained there for sufficient time. On the arrival of police nafri from the station, he was taken and shifted to hospital where his report as dying declaration was recorded by Fayaz Ali Shah IHC Emergency Staff Civil Hospital Bannu. The accused officials have stated in their statements recorded by the Investigating Officer under 161 CrPC that the occurrence has taken place in the street supporting the version of complainant late Imam Hassan but their replies to the charge sheets were contradictory to the above statements and they had stated that the occurrence has taken place inside the house of PO Amin Shah and they (except DFC Shoaib) blamed Imam Hassan for getting monthly illegal gratification from the accused and lodging wrong report with the intention to get package from the Government. The Investigating Officer has explained categorically that the occurrence has taken place in the street from where he has collected blood stained earth, empty shells of 7.62 Bore and liver of hand grenade etc.

In view of the dying declaration statement of Imam Hassan Shaheed coupled with statement of Investigating Officer, Murad Ali Inspector, Fayaz Ali Shah IHC and report of preliminary inquiry, the self defense plea of the accused officials is incorrect, frivolous and based on mala fide in order to conceal their cowardice and negligence while facing the militant accused who martyred the Imam Hassan Ex-SHO PS Haved in their presence. During the incident neither the accused officials have received any fire arms/ bomb blasts injury nor injured/ killed the accused Amin Shah or his colleague which clearly speaks their cowardice, inefficiency and negligence. The charges leveled against the accused officials are established and they are found guilty.

Submitted for orders pl.

Both the constables F.C Shoaib 331

and F.C Naveer Zaman are

being dismissed from service 07-05-2013

and the remaining four constables, the certified that the findings report

is consist of four pages and the report that the each page is signed by me.

be awarded Major Punishment i.e. Dismissal from Service.

Mir Faraz Khan
Inspector
Inquiry Officer

07-05-2013

S.O
07-05-13

Attached

۲ نام دہلی میں۔ (۱) ملازمت خانہ، EE 469، شہید خانہ 331

DFC، ایس ایچ ایف، امتیاز خانہ، 1625، عمارت

2342، رضوان اللہی، 2345، فواد خان، 379، FC، عمارت اللہ

FC 636 اور ڈرائیور حامد خان، 1808، FC - ان کے

مفصل بیانات فریڈرک 161 میں قلمبند کیے ہیں۔ ان کے

بیانات کی روشنی میں وقوعہ گلی یعنی گھر سے باہر ہونا

ہوئے۔ حیرت آمیز سے قبل امام حسن SHO شہید کو

ہسپتال لے گیا تھا۔ موقع سے مٹی خون الود، خول 7-62 اور

برآمد کر کے قبضہ میں لے گئے۔ اسی طرح پولیس ملازمت خانہ کے مقام

پر 79 خول 7-62 اور بھی برآمد کیے گئے۔ (اس کے علاوہ صاحب شاہ

کے گھر سے بیرونی تختہ دیوار سے باغ عدد 155 گولی بھی برآمد

گئی۔ اسی طرح امین شاہ ظہیر کے مکان میں کئی کئی گولی بیرونی

حصہ لے گئے۔ ہمارے قبضہ میں آئے۔

6

6

بیان از ان مراد علی خان السید تقسیمی افسر مکانہ ہوا در نیوں

حلقہ بیان کیا کہ میں مقدمہ عدالت ۹ حورم ۱/ 2013 13 بریم 302 PPR
324

7ATA مکانہ ہوا در کی تقسیمی کی ہے۔ موقع ہر جا کہ تقسیم ہو

صدا کشا در ہی گواہان قسم در کرتے ہا ہے۔ گواہان ہر

بعد قتل القسین و خانہ ولدشی ملتان مقدمہ میں
حالانکہ مکمل برائے کاروائی 25 ص 25 صرف برائے کوشش ارسال
کے ہیں۔

جرح میں جانب ملتان کانسٹیبل ...
سوال - حکم چوکیس ایسٹبلشمنٹ کی فائل سے امین شاہ ملزم یا کف
برائے کر زخمی ہوا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
جواب :- علقہ میں عام افواہ تھی لیکن کوئی ثبوت رکھتا ہے
برائے لایا ہے نہ ملتا ہے۔ برائے کوشش کی ہے
سوال ہے: اما جن سے سرکاری رائلٹوں کو لیا گیا تھا؟

جواب :- ملزم کو فخر محمد ابراہیم نے حورمہ 2013ء کو پیش کیا
جو برائے فرو قبضہ نہیں کیا ہے۔ ملزم کو فائل کے ساتھ برائے
ملنے کانسٹیبل موجود ہے۔

سزا دہلی قتل

پتھری

Nasir

پتھری

پتھری

فواد خان

پتھری

پتھری

R.O & AC

Attested
R.O
2013

ملحقہ ایڈیشنل SHD ٹھکانے ہوئے حال ایڈیشنل ڈی ایس پی کی کاپی میں
بناں ازان محمد خطاب ایڈیشنل SHD ٹھکانے ہوئے حال ایڈیشنل ڈی ایس پی کی کاپی میں

حلقہ میان لیا کہ وقوعہ کی اطلاع ملتے ہی میں فوراً ہم نفری
نذریم گاڑی پر ایسٹوٹ موقع واردات واقع شیخ فرید بابا
دوران ہوا۔ موقع پر پہنچ جائے وقوعہ کا گھیرا ڈال دیا۔

اسی دوران نفری زیر قیادت ASI منصف شاہ بھی موقع پر
آگئی۔ SHD اگام حسن زخمی حالت میں اسٹیشن شاہ سے فوراً لیا اور
بازار علی میں لڑا گیا۔ ہسپتال کو بھیجا گیا۔ صحت بحال ہے۔
اگام حسن SHD ملزم / ملزمان کی تلامشی شروع کی مگر شام کی تاریکی
اور ملزمہ حفاظت کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ دوران سروس
ایڈیشنل DPD علی خود تھوڑی تھوڑی کاپی کو موجود تھا۔

رج من جانب ملزمان کانسٹیبلان . NIL موقع دیا گیا۔

Asi/PP. Basia wheel.

R.O.A.C

Attested
E.O.
23.4.2013

Nadim Zaman
بجلیان ایسٹوٹ
نسریم
خود خان
ایڈیشنل ڈی ایس پی

6

6

بیان ازاں فیاض علی شاہ IHC ایمر حسینی کے شہادت
عہد کو اور حسینیوں

صافاً بیان کیا کہ میں ایمر حسینی میں ڈیوٹی پر موجود تھا۔ امام حسن

SHD تھانہ حوید زخمی حالت میں ایمر حسینی وارد لایا گیا۔ پولیس
کے قابل تھا۔ میں نے امام حسن کا رپورٹ مراسلہ کی شکل میں
تحریر کرنے رپورٹ برائے انہوں نے انہیں دستخط تبت کیا۔ اصل
رپورٹ بدعت کانسٹیبل محمد اکرم نے 134 تھانہ حوید ارسال کیا۔
رپورٹ میں امام حسن نے بیان کیا ہے کہ وہ گشت پر تھا
جب کچھ راستہ روزہ دیدہ شیخ فرید پتیا تو وہاں پر
ملتان امین شاہ و دیگر نامعلوم کسان سے کلمہ شہادت مانگے
ان پر فائرنگ کی جس سے وہ دستوں سے ہٹ گئے جس سے
وہ تک زخمی ہوا۔ بعدہ زخموں کی تاب نہ لا کر لاشاوار
میں جان بحق ہوا۔ امام حسن کے جسم پر مختلف فائر ام کے
زخبات تھے۔

Wahid Zouman

R.O. BAG

Handwritten signature

فوارحان

جرح میں جانب ملزم کانسٹیبلان۔ یہ غلط ہے کہ امام حسن
نے رپورٹ پر دستخط نہیں کیا ہے۔ یہ غلط
ہے کہ مراسلہ رپورٹ میں نہیں لکھا ہے۔

~~R.O. BAG~~
IHC Casualty

R.O. BAG
Attested

ضلع ہزار

ازدفعہ (15) الیکشن ضلع ہزار

انچارج کنٹرول روم پول پولیس لائن

انچارج

لکھا جاتا ہے کہ لسٹڈ ایڈوانس کی وصولی

11.11.23 کو رقم $23 \frac{4}{13}$ کوئی 9.50 5.00 1.00
میں حاضر ہوئے ہیں

PKT

تاج علی زئی انچارج

12. 4 دہائیوں کا 15140 مہینہ سال جوئی ایڈوانس

13. فراڈ میں سال 20 سہ ماہی اور سال کی صورت

4. بیٹھو DF 2345
17. قواز 379
18. عمران 2342
FC

9. انچارج 2345
10. انچارج 1625
11. انچارج 4072
12. انچارج 1469


13. کیتاں اور چھوڑاں

Handwritten signature and notes at the bottom.

پیش برائے

18/1/13

40
170



پولیس رپورٹ

(خطی ہوں)

13.01.2013 مورخہ

بھالہ اطلاقی رپورٹ نمبر IPB

13 جنوری، مزید معلومات کے مطابق پولیس ایجنسیوں کے مابین فائرنگ کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملنے ہی DPO میں دو دیگر پولیس نفری بمباری انتہی رادار کیمپ بنڈ گاؤں کے موقع پر بھی گئے۔ پولیس نے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور پوتہ 2045 کے کلب نزدیکی گھروں کا سرچ آپریشن کیا لیکن کوئی گن کرمان فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ مزید معلومات جاری ہیں۔

برائے ایڈیشنل انسپکٹر جنرل آف پولیس، پیش برائے، صوبہ خیبر پختونخوا، پشاور

کاپی برائے:-

- (1) چیف سیکرٹری، صوبہ خیبر پختونخوا۔
- (2) پرائمری پولیس آفیسر، صوبہ خیبر پختونخوا۔
- (3) ایڈیشنل انسپکٹر جنرل آف پولیس آپریشن، صوبہ خیبر پختونخوا۔
- (4) ہوم سیکرٹری، صوبہ خیبر پختونخوا۔
- (5) ڈیوٹی ایف ڈی، پشاور۔
- (6) ریجنل پولیس آفیسر، پشاور۔
- (7) سی ایس او ٹوڈوزیر ایف، صوبہ خیبر پختونخوا۔
- (8) ایم ایس ڈی گورنر، صوبہ خیبر پختونخوا۔

Reader

RPO/Bannu

Active effort should be made to arrest the accused.

Max

Site/Hand

For immediate

14/1

13.01.2013 مورخہ R417-24 IPB

URGENT

Office of the District Police Officer (General Branch)
By M. S. 1099/13
Date 14-01-2013

AD-293
DE 15/1/2013
DPO Bannu

D.P.O. RURAL BANNU 18/1

DSP/Rural

All our efforts be made to arrest the accused.

for immediate m-a and report progress please.

15/1/2013

d RPO Bannu 14/1/13

جواب :- مجھے کوئی خوف نہیں ہے

مذہبان کا تسلسلہ موجود ہے جس کا موقع دیا گیا۔ لیکن کسی بھی
کونسل میں سوال یا جواب نہیں کیا۔

13/5/2013

عمران

عصا


عصا

خداد خان

احسان علی

عامر زمان

ROFAC



E.O

03-05-2013

13

بیان ازاں محمد ابراہیم IHC شہر ٹھکانہ غوروالہ میں

حلفاً بیان کیا کہ آیام وقوع مقدمہ علت نمبر 9 حورم 13/13

ٹھکانہ ہووے میں شہر ٹھکانہ ہووے تعینات تھا۔ روزنامہ کتاب - میرٹھ
تحویل میں ہوئی ہے۔ اور حملہ آمد و رفت کی افسر کی انٹری میں خود

یا حد دھمکارتے میں بحوالہ حد نمبر 12 روزنامہ 1/13 ٹھکانہ ہووے

روانگی SHO امام حسن شہید بمع ناصر زمان 1468، حیات اللہ نمبر 636

شعبہ نمبر 331 DFC، پھولان نمبر 2345 ع. ل. عمر جان نمبر 2342 ع. ل.

امتیاز نمبر 1625 ع. ل. نصیب اللہ نمبر 4072 ع. ل. خواجہ خان نمبر 379

ڈرائیور جمہور نمبر 1808 یا تحویل سرکاری ڈاکس نمبر سلسلہ نشیب

دعا بندگی انٹری موجود ہے۔ حملہ ملد زمان پر سرکاری انٹری مائے جناب

بلت ہروف و سپلٹ تقسیم کیے تھے۔ میں ٹھکانہ میں موجود تھا اطلاع

نذر لیم وائر لیس وصول ہوئی کہ ~~میں~~ پولیس اور طالبان دشمنی (ڈرائیور) تھا

روپ کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے۔ فوراً عمر خطاب Ad. SHO بمع نفی

واقعہ کی طرف روانہ ہوا۔ واقعہ کی اطلاع افسر ایف ایف ایف کے نوٹس میں

دیا گیا۔ بحوالہ حد نمبر 19 روزنامہ 1/13 عمر خطاب - Ad. SHO بمع نفی

و نفی SHO امام حسن کی واپسی کا ریکارڈ ہے۔ ~~میں~~ نقل عدالت کی

کا بیان بطور ثبوت پیش کرتا ہوں۔

سوال نمبر 4.0 نقل نمبر 19 کے مطابق پولیس ملد زمان نے عمل

کا نمبر 13.12.7.82 اور فائرنگ میں کا خواجہ آہ - گٹ نمبر 2.2.9

ملفوظوں

14

Handwritten mark

۲۵ پیوستہ

تکمیل ۱۳ روز نامہ ۱۳^۱/_{۱۳}

۱۳ اطلاع اردو نئی امرتسر غرظہ - خان A 840 صرف ۱۳^۱/_{۱۳} درت ۵۵-۱۷-۱۷
 درت ۲ صلیب اس وقت بزرگوار ڈائریس اطلاع ملی نہ SH0 (م) فن خان SH0
 اور شریک اس میں نشان سکہ شیخ فرید بابا کے مابین فائبرنگ شروع مع
 اس اطلاع میں جو درت 140²⁰⁶ اصرار اللہ ۹۰۵، اصرار 1317 حبیب اللہ 352
 نور محمد 1898 - صفت اللہ 489 - برت اللہ 1929، سجاد الرحمن 2336
 انعام اللہ 1434، رفعت 25 اور FC کے جوان بیلٹون پر 362 کے نائب امیر
 علی عباس خان کنڈلن تھنق، الذریز، بہادر، شیراز خان، حفیظ اللہ
 رفوان اللہ کے حکم بند پر صلیب - صلیب ٹریڈ، لاکھ لاکھ، بلکہ
 سیواری گاڑی پر ایئر بٹن عقب SH0 صاحبان و دیگر شیخ فرید بابا کا
 ہوں صاحبان اطلاع بزرگوار ڈائریس کنڈلن (م) اور ان کے نام
 کو بروقت ڈالیں - صاحب - علی ۱

تقریر لکھائی اور بھیجی



Handwritten signature and text

Place on file

Handwritten signature

03-05-2013

3-5-13

بیان اور اس کے لئے رقم 4072 فی مئی 22 اس وقت

~~15~~

کے لئے رقم 4072 فی مئی 22

15

بیان کے لئے رقم 4072 فی مئی 22 اس وقت

352/324
7ATA


کے لئے رقم 4072 فی مئی 22 اس وقت

کے لئے رقم 4072 فی مئی 22 اس وقت

کے لئے رقم 4072 فی مئی 22 اس وقت

03/05/03

ROBAC

Attested 

80

03-05-2013

بیان احوال مرشد علی حسینی ²⁵ و بی بی ²⁵ کے لئے

~~16~~
16

کرن R.O.A

۱۳۱۳ء میں بیان کیا کہ میں (میں نے) وقوع میں آئے ہیں

۱۳۱۳ء میں بیان کیا کہ میں (میں نے) وقوع میں آئے ہیں
۱۳۱۳ء میں بیان کیا کہ میں (میں نے) وقوع میں آئے ہیں
TATA

۱۳۱۳ء میں بیان کیا کہ میں (میں نے) وقوع میں آئے ہیں


۱۳۱۳ء میں بیان کیا کہ میں (میں نے) وقوع میں آئے ہیں

۱۳۱۳ء میں بیان کیا کہ میں (میں نے) وقوع میں آئے ہیں



RO&AC

Attested



E.O

03-05-2013

بیان احوال عمر فاروق 2342 (کھنٹی) 22 مارچ 2013

11/1/13

1

بیان احوال عمر فاروق (کھنٹی) وقوع حادثہ 9 مارچ 2013

2302/324
9ATA

بیان احوال عمر فاروق (کھنٹی) وقوع حادثہ 9 مارچ 2013

کے نام سے

3/5/13

ROBAC

Attested

E.O.
03-05-2013

18

47

بیان از ان فواد 379 ایلٹ فورس کینیڈا 72

تعمانہ بسیدہ ضل بنوں

بیان کیا کہ میں ایام وقوعہ ^{قدوم} ^{مقام} مورخ $\frac{1}{13}$ 13 302
324
787A

تعمانہ خود میں بطور کانسٹیبل تعینات تھا۔ میرا وہی


بیان ہے جو جواب وارد شدہ میں دے چکا ہے

مزید یہ کہ میں کوئی ٹواہ وغیرہ اپنے اہل خانہ میں پیش

نہیں کیا تھا۔

ROSA C

Attested



E.O

03-5-2873

بیان احوال و مسائل عدالتی و دیگر امور کی صورت میں


~~16~~

16

کے تحت R.O.A


یہ بیان کیا کہ میں نے (تو) 13/05/2013
میں 32/324 کے تحت جو پورے سے لکھنؤ میں
TATA

تھا۔ میرا وہی بیان ہے جو جو اب پیش کیا
میں، اس کے ساتھ ساتھ۔ مزید یہ کہ میں نے اس کو
دوسرے ایک مقام پر بھی لکھا ہے جس کی کاپی بھی



RO&AC

Attested



E.O

03-05-2013